



| Al Meezan |
Investment Management Ltd.

AM1
Rating by VIS & PACRA

HORIZONS OF POSSIBILITY

ANNUAL REPORT 2025

SMS "INVEST" to 6655
0800 - HALAL (42525)
www.almeezangroup.com

Follow us on      



A Subsidiary of
Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Risk Disclaimer: All investments in Mutual Funds and Pension Funds are subject to market risks. Past Performance is not necessarily indicative of future results. Please read the offering document to understand the investment policies, risks and tax implication involved. The products herein above have been approved by our Shariah Advisor (Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani) whose registration reference number is (SECP/IFD/SA/005).

Use of the name and logo of Meezan Bank Limited does not mean that it is responsible for the liabilities/obligations of Al Meezan Investment Management Limited or any investment scheme managed by it.



Al Meezan
Investment Management Ltd.



AL MEEZAN FAMILY OF FUNDS



Meezan
Rozana Amdani
Fund



Meezan
Cash Fund



Meezan
Islamic Income Fund



Meezan
Sovereign Fund



Meezan
Daily Income Fund



Meezan
Fixed Term Fund



Meezan
Islamic Fund



Al Meezan
Mutual Fund



KSE-Meezan
Index Fund



Meezan
Dedicated Equity
Fund



Meezan
Energy Fund



Meezan
Tahaffuz Pension
Fund



Meezan
GOKP Pension Fund



Meezan
Balanced Fund



Meezan
Asset Allocation
Fund



Meezan
Meezan Dynamic Asset
Allocation Fund



Meezan
Gold Fund



Meezan
Pakistan Exchange
Traded Fund



Meezan
Financial Planning
Fund of Funds



Meezan
Strategic Allocation
Fund

TABLE OF CONTENTS

* 05	WHO WE ARE
* 06	VISION AND MISSION
* 07	CORE VALUES
* 08	MILESTONES FOR FY 2025
* 10	BOARD OF DIRECTORS' PROFILE
* 18	DIRECTORS' REPORT
*	Fund Information
*	Report of The Fund Manager
*	Trustee Report to The Unitholders
*	Report of The Shariah Advisor
*	Independent Assurance Shariah Auditors' Report
*	Independent Auditors' Report to The Unitholders
*	Statement of Assets And Liabilities
*	Income Statement
*	Statement of Comprehensive Income
*	Statement of Movement in Unitholders' Fund
*	Cash Flow Statement
*	Notes to & Forming Part of The Financial Statements



MRAF	MCF	MIIF	MSF	MDIF	MFTF	MIF	AMMF	KMIF	MDEF	MEF	MTPF	MGOKP	MBF	MAAF	MDAAF	MGF	MZNPETF	MFPF	MSAF
58	102	148	191	232	314	378	420	464	504	544	582	627	646	707	747	782	817	851	893
59	103	149	192	233	315	379	421	465	505	545	583	628	665	708	748	783	818	852	894
61	105	151	194	243	320	383	426	468	508	548	587	630	668	711	751	785	821	855	897
62	106	152	195	244	321	384	427	469	509	549	588	631	669	712	752	786	822	856	898
63	107	153	196	245	322	385	428	470	510	550	589	632	670	713	753	787	823	857	899
66	110	156	199	248	324	387	431	472	512	553	591	634	672	715	755	789	825	859	901
69	113	159	202	251	327	390	434	475	515	556	593	636	675	718	758	792	828	862	904
70	114	160	203	253	329	391	435	476	516	557	594	637	676	719	759	793	829	864	906
71	115	161	204	255	331	392	436	477	517	558	594	637	677	720	760	794	830	866	908
72	116	162	205	257	333	393	437	478	518	559	595	638	678	721	761	795	831	867	909
73	117	163	206	259	337	394	438	479	519	560	598	641	679	722	762	796	832	869	913
74	118	164	207	261	339	395	439	480	520	561	599	642	680	723	763	797	833	871	915

WHO WE ARE

Al Meezan Investments has a vision: To make Shariah Compliant Investing a first choice for investors. With the largest and most diverse customer base of over 457,000 investors, ranging from institutions and businesses to individuals and High Net Worth clients, we offer investment solutions, mutual funds and investment advisory services catering to specific needs of each of our customers.

Our aim is to innovate and consistently perform, thereby facilitating investors in achieving their financial objectives in a Shariah Compliant manner. Our philosophy is based on our 5 Core Values (Shariah Compliance, Ethical Standards, Professional Excellence, Service Excellence, Social Responsibility) which enables us to perform in harmony with our mission to establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings and investments.

As the Largest Fund Manager in Pakistan with over Rs.594 Billion assets under management (as of 30th June, 2025) and with the highest management quality rating of AM1 awarded by VIS & PACRA, we offer a comprehensive range of Shariah Compliant investment solutions ranging from equity, balanced, asset allocation, fixed income, money market, capital preservation, fund of fund, commodity, Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022 and voluntary pension scheme. Depending on each investor's need, we provide expert guidance to them to achieve their financial objectives.

Our Separately Managed Accounts, popularly known as SMAs, offer clients a relatively customized option to Portfolio structuring and Investment Management. Under this Investment Advisory service, we offer our esteemed clients with a cost-effective solution to draft their own portfolio objectives and requirements, all the while, providing expert guidance and suggestions on how to achieve their investment objective.



VISION

To make Shariah Compliant Investing
a first choice for investors.

MISSION

To make Shariah Compliant investing a first choice for investors.
To establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings
and investments by offering innovative Shariah Compliant
investment solutions through ethical conduct, value added services
and optimal returns, while protecting the interest of all stakeholders



OUR CORE VALUES

Our Core Values are the 5 pillars of our foundation.

Our Core Values are the 5 pillars of our foundation. They reflect and reinforce our character and standing as an organization. These values depict the paradigm of our internal and external expectations: Our dealings with members of the organization, our customers, the shareholders and the communities we serve. Our corporate culture is based on these values and serves as a beacon of guidance for all our employees.

Our values are not about what we do or how we do it in fact they are about who we are and why we exist. These values, which fuel our drive to achieve newer milestones at every step of our journey to success are:

Shariah Compliance

We ensure that all business operations and activities are Shariah Compliant. As a Shariah Compliant entity we are also accountable for ensuring that rulings and decisions made by the Regulators, Shariah Board and Shariah Advisors are Complied with across the organization.

Ethical Standards

We practice high ethical standards at work and in our services. Maintaining high ethical standards in the workplace translates in prioritizing the interest of the client, acting with integrity, competence and diligence, and respecting our dealings with the public, clients, prospective clients and colleagues.

Professional Excellence

Professional excellence is about achieving excellence as an employee. It is at the core of being a “professional.” Ensuring our approach to work and the people we work with – supervisors, colleagues and/or customers – is in a professional and respectful manner.

Service Excellence

Service excellence is an attitude engrained in every department and employee. From support staff to the CEO, we simply go beyond delivering products and helping customers achieve their financial objectives. It is essential that we provide a unique customer experience by proactively anticipating and exceeding customers’ needs every time. Excellence is a consistent, premium service at every point of contact which is set by our service-oriented tone that drives our company’s strategy at every level.

Social Responsibility

We work in an ethical framework, which suggests that as an entity we have an obligation to act for the benefit of our society at large. We want to contribute towards sustainable development not only through our products but also through the way we conduct business.



MILESTONES FOR FY 2025

Successfully maintained & strengthened our position as the **Largest Asset Management Company in Pakistan** with **Assets under Management** of over **PKR 594 Billion** (as of June 30th, 2025)

Proud to maintain **AM1 rating**, which is the highest management quality rating in Pakistan awarded by both **VIS and PACRA** (Credit Rating Companies).

Category Leader as the **Largest Shariah Compliant Fund Manager** of:

Equity - Meezan Islamic Fund

Money Market - Meezan Cash Fund

Income - Meezan Sovereign Fund

Voluntary Pension Scheme - Meezan Tahaffuz Pension Fund

Open End Islamic CIS as per SECP (Fixed Term) - Meezan Paidaar Munafa Plan XXI

New Product Launches

Meezan Paidaar Munafa Plan Series
(MPMP-XIII, MPMP-XIV, MPMP-XV, MPMP-XVI, MPMP-XVII, MPMP-XVIII, MPMP-XIX, MPMP-XX, MPMP-XXI)

One of the Largest Investor Base of **Over 457,000 Customer** (as of June 30th, 2025)

Awards and Recognition

Won '**Best Banking Tech of the Year**' at the Pakistan Digital Awards for Raast, IBFT & Bill Payment Services.

Recognized as the '**Leading Brand of The Year 2024**' in the category Asset Management & Investment Advisory Services (Islamic) at the prestigious Brand of the Year Awards.

Won **Asset Management Company of the Year Gold** at the **9th IFFSA Awards**.

Received awards in 3 categories '**Best Asset Management Company of the Year**', '**Best Pension Fund Manager**', '**Best Fixed Income Fund Manager**' at the **18th Consumer Choice Awards 2024**.

Meezan Sovereign Fund - Pakistan's First Fund to Cross **PKR 20,000 Crores** in AUMs.



BOARD OF DIRECTORS

Mr. Irfan Siddiqui Chairman

Mr. Irfan Siddiqui is the founding President and CEO of Meezan Bank since 1997 to date. Having articulated with Coopers & Lybrand, London from 1975 - 1979, Mr. Siddiqui qualified as a Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

His distinguished career includes several senior management roles, such as Chief Executive Officer at Al Meezan Investment Bank Limited, General Manager at Pakistan Kuwait Investment Company, Chairman of Al Meezan Investment Management, Advisor to the Managing Director at Kuwait Investment Authority, Manager of Finance and Operations at Abu Dhabi Investment Company, and Senior Business Analyst at Exxon Chemical (Pakistan) Ltd.

Presently, Mr. Siddiqui holds the following positions in various bodies:

- * Member of Board of Trustees - Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bahrain
- * Chairman of the Board of Directors, Al-Meezan Investment Management Limited
- * Member of IBA Centre of Excellence in Islamic Finance, (CEIF), Board of Management
- * Member Steering Committee for providing strategic guidance regarding implementation of Federal Shariat Court (FSC)'s judgement on Riba
- * Chairman of Steering Committee on Media Campaign - Improving Islamic Finance Literacy
- * Member of Government of Pakistan sub-committee on awareness, training and capacity building for Promotion of Islamic Banking in Pakistan
- * Council Member, Institute of Bankers Pakistan (IBP)

Additional roles recently held by Mr. Siddiqui include:

- * President of the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry (Feb-2021 to Jan-2022)
- * Member of Government of Pakistan Steering Committee for 'Promotion of Islamic Banking in Pakistan' (2013 - 2016)

Ms. Ayesha Umer

Nominee Director – PKIC

Ms. Ayesha Umer is an accomplished banking professional with over two decades of diverse experience spanning Consumer, Corporate, and Investment Banking sectors. Before joining PKIC, she had been associated with UBL and Faysal Bank Limited.

Since June 2021, Ms. Ayesha has been part of the PKIC team, initially as Regional Head – South, and now a member of the leadership team as Group Head – Corporate and Investment Banking. She is currently also serving as Nominee Director on the Board of Planet N Group of Companies (group concern of PKIC).

Ms. Ayesha's dedication extends beyond her professional pursuits, as she actively supports initiatives aimed at addressing the education crisis in Pakistan, volunteering with The Citizens Foundation of Pakistan.

Ms. Ayesha is a certified Director from the Pakistan Institute of Corporate Governance and an alum of the Lahore University of Management Sciences, holding a BSc. (Hons) degree in Computer Science.

Ms. Danish Zuberi

Independent Director

Ms. Danish is an Advocate of the High Court and advises corporates and family run businesses on a wide variety of corporate and commercial matters, taxation, oil and gas, competition, arbitration and mediation.

Ms. Danish commenced her career at the premier litigation set namely, Fazle Ghani, Advocates and thereafter established her independent practice. She was the General Counsel of Pakistan Petroleum Limited before taking up a partnership at Vellani & Vellani.

Ms. Danish has completed LLB from University of Wales and is a Barrister at Law. She has been certified by CEDR as a Mediator. She also has a keen interest in human rights law and has served on boards of various non-profit organizations.



Mr. Feroz Rizvi Independent Director

Mr. Feroz Rizvi is a Chartered Accountant, having qualified from England & Wales. He has over four decades of local & international experience in some of the largest companies in the world.

On returning to Pakistan post qualification, he joined ICI Pakistan Ltd, a subsidiary of ICI PLC, one of the largest chemical companies in the world. He left ICI Pakistan Ltd in 1985 and after five years with Petromin Refinery Riyadh, KSA, he re-joined ICI Pakistan. In 1996 he was seconded to ICI PLC's headquarters in London.

During his secondment, he was involved in ICI PLC's strategic shift from industrial to consumer & effect chemicals, leading to a major acquisition of four chemical companies from Unilever PLC for USD 8 bln, as part of the group's major strategic priority. In addition, he was also responsible for a number of divestments of ICI PLC's major industrial chemical businesses in accord with the group's strategic move. Back in Pakistan after secondment, he completed the demerger of ICI Pakistan's Paints and PTA businesses into separate listed companies, leading to the sale of the latter to Lotte (a Korean conglomerate) and the former's transfer to Akzo Nobel. In ICI Pakistan he also implemented the state-of-the-art SAP ERP system across the group. He retired from ICI Pakistan Ltd as CFO & Finance Director. He has also been CEO of Pakistan Institute of Corporate Governance.

Mr. Rizvi has extensive experience in corporate & financial strategy, taxation, corporate governance, restructuring and mergers & acquisitions. Beside ICI Pakistan Ltd, he was a board member of Pakistan PTA Ltd, Faysal Asset Management Ltd, Atlas Insurance Ltd. and Pakistan Oxygen Ltd. Currently, he is on the Board of 1 Link (Pvt.) Ltd. He is an alumni of INSEAD France and Wharton Business School and lectures on corporate governance, business strategy and related areas to Board members and other senior executives.

Mr. Furquan R Kidwai Independent Director

Mr. Furquan R Kidwai is the Founder & CEO of Dawaai Technologies. He is a technology entrepreneur who has built the largest health technology company in Pakistan over the past 10 years. Prior to this journey, Mr. Kidwai was an investment banker for over eight years in London and New York where, in his last role, was the Head of CEEMEA Financing as well as a Senior Vice President in the Fixed Income trading business at the Royal Bank of Scotland. Before joining RBS, Mr. Furquan worked as an Associate at Merrill Lynch and Lehman Brothers in their London and New York offices. He has also served as a member of the Board of Imperial College of Science, Technology and Medicine, London.

Mr. Furquan read International Relations for a Master's degree at Cambridge University. He also has an MSc in Financial Mathematics with specialization in Risk Management from Imperial College London and BEng in Computer Systems Engineering from Bristol University.

Mr. Imtiaz Gadar, CFA Chief Executive Officer

Mr. Imtiaz Gadar is a seasoned finance professional with a distinguished and award-winning career spanning over two decades consistently delivering exceptional results across diverse facets of the financial industry, including Portfolio Management, Investment Banking, Equity Brokerage, Research and Investor Relations.

Prior to joining Al Meezan in August 2024, he served as the Chief Executive Officer of JS Global Capital Limited, where he orchestrated the firm's ascent to a leadership position within the industry. His leadership was instrumental in securing multiple prestigious awards from AsiaMoney, ICAP, Finance Asia and CFA Society Pakistan, including a historic sweep of all 5 Brokerage Category Awards for FY24.

Prior to his role at JS Global Capital, he served as Executive Vice President and Head of Capital Markets at Bank Alfalah Limited. During his tenure, he established and led high performing teams responsible for Public and Private Principal Investment and Advisory businesses. Under his guidance, the bank garnered consistent recognition as the Best in Investor Relations for eight consecutive years by the CFA Society Pakistan and secured awards in the category of Best Equity Corporate Finance House (Banks) on three separate occasions.

His career trajectory also encompasses significant experience in local and international broking and Investment Banking, through his roles at JP Morgan Pakistan and the local affiliate of Bank of America - Merrill Lynch. His contributions to these organizations were marked by exceptional performance, culminating in multiple recognitions as Best Pakistan Analyst by CFA Society Pakistan and a five-year streak of accolades from AsiaMoney.

As part of his Investment Banking efforts at different organizations, he has successfully executed complex financial transactions valued at over US\$1.8 billion. These include Mergers & Acquisitions, Buybacks, Global Depository Receipt Offerings, Initial Public Offerings, Secondary Public Offerings, Rights Offerings, and Tender Offers.

He is a Chartered Financial Analyst (CFA) and Masters in Business Administration (MBA) with 2 Gold Medals Overall & Finance, from the Institute of Business Administration, Karachi.



Mr. Saad Ur Rahman Khan

Nominee Director – PKIC

Mr. Saad Ur Rahman Khan has an extensive banking career spanning over 3 decades in the area of Retail, Trade, SME, Commercial, Corporate, Investment Banking, Financial Institution, International Banking and Risk Management. He is currently serving as Managing Director / Director of Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited (PKIC). Currently, he is also serving as nominee director of PKIC on the Board of Meezan Bank Limited, Pakistan Institute of Corporate Governance and National Clearing Company of Pakistan Limited. Mr. Saad started his professional journey with MCB Bank Limited in 1993, he has since held numerous senior roles in large local and multinational banks including Citibank, National Bank of Pakistan, Habib Bank Limited and Bank Alfalah Limited. He has also served as a director on the Boards of Alfalah Asset Management Limited, NBP Fund Management Limited, National Bank of Pakistan Kazakhstan, National Bank of Pakistan Tajikistan, Sapphire Wind Power Company Limited and Triconboston Consulting Corporation (Private) Limited. Mr. Saad is a graduate of Institute of Business Administration (IBA), Karachi.

Ms. Shazia Khurram

Nominee Director – MBL

Senior Retail Banking Executive with over two decades of experience in retail banking business, product development, wealth management, consumer assets, sales and customer experience. Entrepreneurial-minded and motivational leader recognized for consistently exceeding customer expectations and organizational goals through diverse situational challenges while upholding company values with utmost integrity. Notable experience in development of digital products and services.

Syed Amir Ali, CFA

Nominee Director – MBL

Syed Amir Ali excelled in the ambit of Finance, Treasury, Investment & Corporate Banking throughout his association with domestic and international organizations i.e. A.F Ferguson & Co, Shell, Bank Islami Pakistan Limited and Meezan Bank. In his first tenure with Meezan Bank he spearheaded corporate and investment group before moving to Bank Islami in 2018 as a President & CEO. Now he has been re-joined Meezan Bank as a Deputy CEO.

His diverse credentials as a Chartered Accountant (Gold Medalist) from Institute of Chartered Accountants of Pakistan, CFA Charter holder, MBA (Gold Medalist) and LLB are testament to his progression in the Financial Industry.

Syed Imran Ali Shah, FCA, CFA

Nominee Director – MBL

Syed Imran Ali Shah is a highly accomplished finance executive with nearly two decades of experience in the Financial Services industry. He possesses a unique blend of strategic acumen, leadership skills and financial expertise. Throughout his career, he has demonstrated a proven track record of driving business growth, leading high-performing teams and providing strategic advisory to senior management at top-tier financial institutions.

As a seasoned executive, he has successfully led complex projects, navigating challenging work environments to consistently deliver impressive results. As Chief Financial Officer of Meezan Bank, he leverages his diverse experience to shape financial strategy, drive sustainable growth and foster a culture of innovation. Prior to joining Meezan Bank, he has held progressively senior roles at globally renowned financial institutions including Goldman Sachs, Morgan Stanley and Deutsche Bank in London, United Kingdom. His professional journey started with KPMG UK where he trained as a Chartered Accountant.

Mr. Shah's academic background includes an Executive MBA with Distinction from London Business School and a Bachelor of Science degree from the London School of Economics and Political Science. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and a qualified Chartered Financial Analyst (CFA).



OUR BRANCH NETWORK

SOUTHERN REGION

FTC Branch, Karachi:

Ground Floor, Block B, Finance and Trade Centre (FTC), Sharah-e-Faisal, Karachi
Tel: (92-021) 35630722-26

Sales Hub, Karachi:

Bungalow # 43-5-E/2, Shah Abdul Latif Road, Block 6, P.E.C.H.S., Karachi
Tel: (92-021) 37132135

North Nazimabad Branch, Karachi:

Office # G-1 & G-2, Ajwa Residency, North Nazimabad, Block L, Karachi
Tel: (92-021) 36641495

Bahadurabad Branch, Karachi:

Shop # 4, Ground Floor, Adam Arcade, B.M.C.H. Society, Shaheed-e-Millat Road, Block 3, Karachi
Tel: (92-021) 37131617-23 (Ext: 180)

DHA Phase IV Branch, Karachi:

Shop # 1, Ground Floor, 12-C, Sunset Commercial Street 2, Khayaban-e-Jami, Near Bait-us-Salam Masjid, Phase 4, DHA, Karachi | Tel: (92-021) 37131680-685

Gulshan-e-Iqbal Branch, Karachi:

Shelezone Centre, Plot # B-73/74, Shop 2A, Block 15, Main University Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi
Tel: (92-021) 36100067-68

Site Area Branch, Karachi:

Shop # 22, Ground Floor, S.P Chamber, Plot # B/9-B-1, Site Area, Karachi
Tel: (92-021) 36100156-160

DHA, Badar Commercial Branch, Karachi:

Plot # 8C, Shop # 03, Street # 10, Badar Commercial, DHA Phase V, Karachi
Tel: (92-021) 37255986 (Ext:260)

Gulistan-e-Jauhar Branch, Karachi:

Plot # B11, Shop # 6, Ground Floor, Alam Shah Bukhari Apartment, Opposite Heavens Banquet, Block 19, Gulistan-e-Jauhar, Karachi
Tel: (92-021) 34187181-84

Clifton / Gizri Branch, Karachi:

Shop # 3, Ground Floor, Plot D-39, Tabba Tower, Gizri Road, Block 9, Clifton, Karachi
Tel: (92-021) 36100238 (Ext: 290)

Malir Cantt Branch, Karachi:

Shop # P-5/A/64, Station Shopping Complex, Ziarat Lane, Malir Cantt, Karachi
Tel: (92-021) 36104625 (Ext: 386)

FB Area Branch, Karachi:

Shop No. G-3, Ground Floor, Block No. 10, situated at KDA Scheme No.16, Federal "B" Area, Karachi
Tel: (92-021) 36363246, 36362409

Hyderabad Branch:

Shop # A-1, 1 & 2, Mezzanine Floor, Shifa Heaven, Near Hias College, CPLC Women Police Station, Main Auto Bhan Road, Hyderabad
Tel: (92-022) 4300010 (Ext: 332)



CENTRAL REGION**Gulberg Branch, Lahore:**

Office # 1, Ground Floor, Leads Centre,
11-E/2, Gulberg III, Main Boulevard, Lahore
Tel: (92-042) 32560540

DHA Phase 2 Branch, Lahore:

1st Floor, Meezan Bank T Block Branch, Plot
7, CCA-2, T Block, Phase II, DHA, Lahore
Tel: (92-042) 32560125-126-128

Johar Town Branch, Lahore:

Plot # 39, Block-L, M.A. Johar Town
Scheme, Abdul Haq Road, Lahore
Tel: (92-042) 32510561-62

DHA Phase 6 Branch, Lahore:

1st Floor, Plot # 3, Sector A, Phase 6
Commercial Area, Near DHA Main Office
Complex, DHA, Lahore
Tel: (92-042) 32307941

Faisalabad Branch:

Shop # 27, First Floor, Plot # 27, Susan
Road, Near Chenab Market, Faisalabad
Tel: (92-041) 5250183, 5270231, 5250001

Multan Branch:

1st Floor, Meezan Bank Rasheedabad Chowk
Branch, Aneesa Plaza, Rasheedabad
Chowk, Khanewal Road, Multan.
Tel: (92-061) 2001001

Gujranwala Branch:

Ground Floor, 387-A, Model Town,
Gujranwala
Tel: (92-055) 2040090

Sialkot Branch:

2nd Floor, Meezan Bank, Qayum Plaza, Aziz
Shaheed Road, Sialkot Cantt, Sialkot
Tel: (92-052) 4290460-1

Gujrat Branch:

Ground Floor, Aurangzeb Centre, Phase 1,
Near Service Industries, G.T. Road, Gujrat
Tel: (92-053) 3724766-67

Bahawalpur Branch:

Shop # 27, Ground Floor, Liberty Square,
Fuji Basti Chowk, Airport Road, Bahawalpur
Cantt, Bahawalpur
Tel: (92-062) 2200235

NORTHERN REGION**Islamabad Branch:**

Office # 7, Buland Markaz, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad
Tel: (92-051) 7080408

I-8 Islamabad Branch:

Shop No.G-17 & G-18, The Interlace Plaza,
Plot#9, I-8 Markaz, Islamabad
Tel: (92-051) 7080484, 051-7080481

Peshawar Branch:

Office # 6-D, Ground Floor, 6 Saddar Road,
Peshawar Cantt, Peshawar
Tel: (92-091) 7270095-96

Abbottabad Branch:

Office # 2, 3rd Floor, Zaman Plaza,
Near Ayub Medical Complex,
Mansehra Road, Abbottabad
Tel: (0992) 414123-4

Rawalpindi Branch:

Plot # 17, Zubair Plaza, 1st Floor,
Chaklala Scheme III,
Main Commercial Area,
Rawalpindi Cantt,
Rawalpindi
Tel: (92-051) 5766364-6



DIRECTORS' REPORT – FUNDS UNDER MANAGEMENT COMPANY

The Board of Directors of Al Meezan Investment Management Limited is pleased to present the financial statements of the following open-end funds and voluntary pension scheme for the year ended June 30, 2025.

Money Market Fund

1. Meezan Rozana Amdani Fund
2. Meezan Cash Fund

Income Funds

3. Meezan Islamic Income Fund
4. Meezan Sovereign Fund
5. Meezan Daily Income Fund

Shariah Compliant Fixed Rate/Return or Open-end CIS as per SECP's Circular No. 3 of 2022

6. Meezan Fixed Term Fund

Equity Funds

7. Meezan Islamic Fund
8. Al Meezan Mutual Fund
9. KSE-Meezan Index Fund
10. Meezan Dedicated Equity Fund
11. Meezan Energy Fund

Pension Fund

12. Meezan Tahaffuz Pension Fund
13. Meezan GOKP Pension Fund

Balanced Fund

14. Meezan Balanced Fund

Asset Allocation Fund

15. Meezan Asset Allocation Fund
16. Meezan Dynamic Asset Allocation Fund

Commodity Fund

17. Meezan Gold Fund

Exchange Traded Fund

18. Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

Funds of Funds

19. Meezan Financial Planning Fund of Fund
20. Meezan Strategic Allocation Fund



Economic Review

FY25 witnessed continuation of Pakistan's measured stride towards sustainable growth. The entry into the 37-month International Monetary Fund's (IMF) Extended Fund Facility (EFF) program of USD 7 billion has been the cornerstone of broad macroeconomic stabilization. This program played a key role in driving structural reforms and restoring macroeconomic confidence. As a result, the country recorded a current account surplus, experienced a sharp decline in inflation accompanied by monetary easing, achieved fiscal consolidation, and saw strengthening of foreign exchange reserves. Towards the end of FY25, Pakistan also unlocked another 28-month arrangement worth USD 1.4 billion under IMF's climate-related Resilience and Sustainability Facility (RSF) program.

The downward trend in inflation, which set off early in second half of FY24, carried on in FY25, with the fiscal year inflation averaging 4.5%, several notches down from 23.4% in FY24. This significant improvement was driven by a high base effect, easing food and global oil prices, and a stable exchange rate. In response to the marked decline in inflationary pressures, the State Bank of Pakistan (SBP) reduced the policy rate from 22% in June 2024 to 11% by May 2025, signaling a shift towards a more accommodative monetary stance.

The Pakistani Rupee remained broadly stable during FY25, with a modest depreciation of 2%, supported by shoring up of the foreign exchange reserves and a favourable external account position. Despite successful execution of debt repayments of around USD 10 billion over the course of the year, the country's forex reserves grew by USD 5.1 billion, reaching USD 14.5 billion by year-end as compared to USD 9.4 billion at the same point last year. This improvement was primarily driven by inflows from multilateral lenders, including disbursements under the IMF program, as well as the first full-year current account surplus in 14 years. The Current Account recorded a surplus of USD 2.1 billion in FY25, against a deficit of the same amount in the same period last year. Primary deficit remained almost flat YoY, with a marginal reduction of 1% YoY. While the trade deficit grew by 21%, it was more than offset by a 27% YoY increase in remittances, which reached USD 38.3 billion. This surge in remittances is attributed to a stable exchange rate, crackdowns on illegal money transfer channels, a reduced spread between interbank and open-market rates, and increased emigration of skilled labor in recent years.

The fiscal account has also exhibited notable improvement, with the deficit shrinking from 6.8% of the GDP in the previous year to 5.6% in FY25. Gross Revenue grew by Rs. 4.3 trillion, whereas conscious control on spending, limited its increase from prior year to PKR 2.4 trillion, resulting in the improved fiscal balance. The country also achieved a fiscal surplus, in the first quarter of the year, the first such instance in 24 years. Although the FBR, with its collection of Rs. 11.7 trillion, failed to achieve its budgeted target with a deficit of over a trillion rupees, it managed to increase its collection by 26% in absolute terms. Moreover, vital support came in the form of an impressive growth of 61% in Non-Tax Revenue, closing the year at Rs. 4.9 trillion, led by SBP's record profits on the back of peak interest rates in FY24 and petroleum levy collection. On the other hand, the escalation in expenses was arrested due to a steep fall in interest rates, along with non-markup spending being kept in check as well through expenditure management and austerity measures. Notably, FY25 also turned out to be the second year in a row wherein the country achieved a primary surplus; 2.2% of GDP against 0.9% in the previous year.

The visible betterment in Pakistan's economic health has also been reflected by both Fitch and Moody's upgrading their credit ratings for the country, with the latter also revising Pakistan's economic outlook upwards from 'Stable' to 'Positive'.

Money Market Review

With a shift towards a more accommodative monetary stance by SBP in response to improving macroeconomic indicators during FY25, the year witnessed sharp monetary easing, while concluding the year with steady rates. Steady rates towards the end of the year were reasoned with risks such as a potential



expanding trade deficit, uncertain foreign inflows, and geopolitical tensions that could impact global commodity prices.

During the year, the Government of Pakistan raised Rs. 2,178 billion through Islamic instruments, slightly below the annual target of Rs. 2,291 billion. Total participation reached to Rs. 6,722 billion, reflecting strong investor interest, particularly in variable-rate Ijara Sukuk. Market sentiment was distinctly skewed towards variable Ijara, as evidenced by the high bid-to-coverage ratios of 7.69 times, 3.66 times, and 3.51 times for the 10-year, 5-year, and 3-year tenors, respectively. Of the total amount raised, Rs. 746 billion was from the 10-year variable Ijara Sukuk, while Rs. 216 billion and Rs. 312 billion were accepted in the 3-year and 5-year variable Ijara Sukuk, respectively.

Fixed-rate Ijara Sukuk auctions in FY25 also attracted robust investor interest, with total bids amounting to Rs. 2,819 billion. The 5-year and 1-year discounted Ijara Sukuk stood out, registering strong bid-to-coverage ratios of 2.48 times and 2.04 times, respectively. Despite this healthy demand, the government adopted a cautious and selective issuance strategy, raising Rs. 396 billion against a target of Rs. 760 billion. The accepted amounts included Rs. 157 billion in 3-year Sukuk, Rs. 222 billion in 5-year Sukuk, and Rs. 10 billion in the 10-year tenor. Additionally, a notable Rs. 508 billion was mobilized through a 1-year discounted Ijarah Sukuk, reflecting continued investor preference for short-term instruments.

During the year, Pakistan Stock Exchange (PSX) marked a milestone with the issuance of its first Green Sukuk, which received an exceptional interest with a high bid-to-coverage ratio of 5.39 times. The government successfully raised Rs. 32 billion, exceeding the initial target of Rs. 30 billion, signaling strong market appetite for sector-specific Shariah-compliant instruments.

The table below summarizes the changes in fixed-income instrument yields and PKR versus USD during the FY25:

Description	30-Jun-25	31-Mar-25	Change (bps)	30-Jun-24	Change (bps)
KIBOR 3 Months	11.15%	12.18%	-103	20.24%	-909
KIBOR 6 Months	11.13%	12.13%	-100	20.14%	-901
KIBOR 12 Months	11.31%	12.34%	-103	19.22%	-791
T-Bill 1 Month	11.21%	12.20%	-99	20.46%	-925
T-Bill 3 Months	11.01%	12.13%	-112	19.97%	-896
T-Bill 6 Months	10.89%	12.04%	-115	19.91%	-902
T-Bill 12 Months	10.85%	11.98%	-113	18.68%	-783
PIB 3 Year	11.15%	11.97%	-82	16.50%	-535
PIB 5 Year	11.40%	12.46%	-106	15.37%	-397
PIB 10 Year	12.30%	12.31%	-1	14.09%	-179
US\$ Inter Bank (PKR)	283.76	280.16	3.60	278.34	5.42
US\$ Open Market (PKR)	286.14	281.85	4.29	280.07	6.07



The table below summarizes the details of Ijarah/Sukuk:

Floating Rate Ijarah:

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval			Change
							30-Jun-24	30-Jun-25	YTM	
XXIII	Floater - 5 years	11.2048%	0.08	186.91	29-Jul-20	29-Jul-25	99.96	100.01	10.58%	0.05
XXIV	Floater - 5 years	11.0128%	0.44	227.26	9-Dec-20	9-Dec-25	100.75	100.32	10.19%	-0.43
XXV	Floater - 5 years	11.8230%	1.27	190.53	6-Oct-21	6-Oct-26	100.47	101.08	10.46%	0.61
XXVI	Floater - 5 years	11.8473%	1.33	584.86	29-Oct-21	29-Oct-26	101.03	101.00	10.54%	-0.03
XXVII	Floater - 5 years	11.9230%	1.82	563.32	27-Apr-22	27-Apr-27	100.69	101.40	10.56%	0.71
XXVIII	Floater - 5 years	11.9473%	2.32	243.85	26-Oct-22	26-Oct-27	100.58	101.50	10.78%	0.92
XXIX	Floater - 3 years	11.6401%	0.52	105.96	5-Jan-23	5-Jan-26	99.21	100.25	11.31%	1.04
XXXV	Floater - 5 years	12.8401%	2.99	131.98	26-Jun-23	26-Jun-28	103.03	104.16	11.75%	1.13
XXXVII	Floater - 3 years	12.7401%	1.03	27.40	12-Jul-23	12-Jul-26	100.21	101.20	11.10%	0.99
XLII	Floater - 3 years	12.6092%	1.43	81.69	4-Dec-23	4-Dec-26	99.82	100.62	10.61%	0.80
XLIII	Floater - 5 years	12.7192%	3.43	99.97	4-Dec-23	4-Dec-28	100.16	101.38	10.60%	1.22
XLIV	Floater - 3 years	11.5548%	1.57	16.17	24-Jan-24	24-Jan-27	100.50	101.39	10.67%	0.89
XLV	Floater - 5 years	11.6848%	3.57	259.30	24-Jan-24	24-Jan-29	100.20	102.79	10.88%	2.59
XLVI	Floater - 3 years	13.3413%	1.86	0.65	10-May-24	10-May-27	100.00	101.42	10.76%	1.42
XLVII	Floater - 5 years	13.6213%	3.86	74.62	10-May-24	10-May-29	100.00	103.05	10.83%	3.05
XLVIII	Floater - 3 years	10.5974%	1.99	38.82	28-Jun-24	28-Jun-27	100.00	100.97	10.96%	0.97
XLIX	Floater - 5 years	10.5874%	4.00	55.05	28-Jun-24	28-Jun-29	100.00	101.06	10.88%	1.06
XLX	Floater - 3 years	11.3570%	2.22	31.42	18-Sep-24	18-Sep-27	0.00	100.81	11.00%	N/A
XLXI	Floater - 5 years	11.5270%	4.22	41.89	18-Sep-24	18-Sep-29	0.00	101.83	10.52%	N/A
XLXII	Floater - 10 years	11.6570%	9.22	41.89	18-Sep-24	18-Sep-34	0.00	102.15	10.95%	N/A
XLXIII	Floater - 3 years	11.3570%	2.31	147.01	21-Oct-24	21-Oct-27	0.00	100.83	11.03%	N/A
XLXIV	Floater - 5 years	11.5270%	4.31	128.16	21-Oct-24	21-Oct-29	0.00	101.85	10.59%	N/A
XLXV	Floater - 10 years	11.8973%	9.32	342.91	21-Oct-24	21-Oct-34	0.00	102.03	11.03%	N/A
XLXIII	Floater - 3 years	11.1901%	2.53	1.45	9-Jan-25	9-Jan-28	0.00	100.78	10.60%	N/A
XLXIV	Floater - 5 years	11.2301%	4.53	21.53	9-Jan-25	9-Jan-30	0.00	99.45	10.78%	N/A
XLXV	Floater - 10 years	11.6301%	9.53	64.71	9-Jan-25	9-Jan-35	0.00	99.42	11.16%	N/A
XLXVI	Floater - 10 years	11.5470%	9.69	57.28	7-Mar-25	7-Mar-35	0.00	102.95	11.16%	N/A
XLXVII	Floater - 5 years	11.4273%	4.84	10.32	2-May-25	2-May-30	0.00	100.17	10.91%	N/A
XLXVIII	Floater - 10 years	11.6973%	9.84	52.67	2-May-25	2-May-35	0.00	100.55	10.77%	N/A
XLXVII	Floater - 5 years	10.5728%	4.92	35.38	30-May-25	30-May-30	0.00	100.02	10.91%	N/A
XLXVIII	Floater - 10 years	11.1128%	9.92	40.59	30-May-25	31-May-35	0.00	100.06	10.77%	N/A
PES I	Floater - 10 years	12.6200%	3.67	200.00	1-Mar-19	1-Mar-29	106.80	104.42	11.04%	-2.38
PES II	Floater - 10 years	11.2900%	4.89	199.97	21-May-20	21-May-30	100.12	102.52	10.95%	2.40
		11.80%		4,305.51						



Fixed Rate Ijarah:

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval		Change
							30-Jun-24	30-Jun-25	
XXIII	Fixed - 5 years	8.37%	0.08	44.59	29-Jul-20	29-Jul-25	86.43	99.68	13.25
XXIV	Fixed - 5 years	9.45%	0.56	8.25	20-Jan-21	20-Jan-26	84.42	98.67	14.25
XXV	Fixed - 5 years	9.70%	1.27	12.73	6-Oct-21	6-Oct-26	83.92	97.96	14.04
XXVI	Fixed - 5 years	11.40%	1.46	323.83	15-Dec-21	15-Dec-26	87.58	101.23	13.65
XXVII	Fixed - 5 years	12.49%	1.82	60.89	27-Apr-22	27-Apr-27	88.58	102.51	13.93
XXVIII	Fixed - 5 years	12.49%	2.38	0.25	16-Nov-22	16-Nov-27	88.33	102.37	14.04
XXXII	Fixed - 3 Years	18.24%	0.80	25.01	17-Apr-23	17-Apr-26	100.41	106.67	6.26
XXXV	Fixed - 3 Years	18.49%	0.99	292.22	26-Jun-23	26-Jun-26	103.51	107.71	4.20
XXXIX	Fixed - 5 Years	16.50%	3.23	0.50	20-Sep-23	20-Sep-28	101.65	112.38	10.73
XLI	Fixed - 3 Years	16.19%	1.43	34.65	4-Dec-23	4-Dec-26	100.11	107.59	7.48
XLII	Fixed - 5 Years	15.75%	3.43	52.85	4-Dec-23	4-Dec-28	101.33	113.33	12.00
XLV	Fixed - 3 Years	15.49%	1.57	1.31	24-Jan-24	24-Jan-27	100.00	107.25	7.25
XLVI	Fixed - 5 Years	15.49%	3.57	25.12	24-Jan-24	24-Jan-29	100.00	112.67	12.67
LIII	Fixed - 3 Years	15.85%	1.86	0.08	10-May-24	10-May-27	100.00	108.25	8.25
LIV	Fixed - 5 Years	15.48%	3.86	45.13	10-May-24	10-May-29	100.00	113.80	13.80
LVII	Fixed - 3 Years	15.80%	1.99	20.91	28-Jun-24	28-Jun-27	100.00	108.87	8.87
LVIII	Fixed - 5 Years	15.10%	4.00	41.55	28-Jun-24	28-Jun-29	100.00	113.20	13.20
LIX	Fixed - 1 Years	17.22%	0.07	18.23	26-Jul-24	25-Jul-25	0.00	99.39	N/A
LX	Fixed - 1 Year	15.99%	0.13	34.47	16-Aug-24	15-Aug-25	0.00	98.84	N/A
LXI	Fixed - 1 Year	15.00%	0.22	42.24	18-Sep-24	17-Sep-25	0.00	97.86	N/A
LXII	Fixed - 3 Year	13.89%	2.22	37.80	18-Sep-24	18-Sep-27	0.00	106.00	N/A
LXIII	Fixed - 5 Year	13.85%	4.22	21.20	18-Sep-24	18-Sep-29	0.00	108.45	N/A
LXIV	Fixed - 10 Year	13.04%	9.22	0.53	18-Sep-24	18-Sep-34	0.00	104.68	N/A
LXV	Fixed - 1 Year	11.75%	0.31	65.62	21-Oct-24	20-Oct-25	0.00	97.14	N/A
LXVI	Fixed - 3 Year	12.00%	2.31	17.26	21-Oct-24	21-Oct-27	0.00	102.93	N/A
LXVII	Fixed - 5 Year	12.53%	4.31	67.33	21-Oct-24	21-Oct-29	0.00	105.94	N/A
LXVIII	Fixed - 10 Year	12.74%	9.32	6.49	21-Oct-24	21-Oct-34	0.00	105.45	N/A
LXIX	Fixed - 1 Year	11.00%	0.35	116.34	7-Nov-24	6-Nov-25	0.00	96.69	N/A
LXX	Fixed - 1 Year	11.00%	0.43	48.87	4-Dec-24	3-Dec-25	0.00	95.81	N/A
LXXI	Fixed - 1 Year	10.42%	0.53	37.72	9-Jan-25	8-Jan-26	0.00	95.16	N/A
LXXII	Fixed - 3 Year	11.50%	2.53	0.71	9-Jan-25	9-Jan-28	0.00	99.45	N/A
LXXIII	Fixed - 5 Year	11.99%	4.53	11.79	9-Jan-25	9-Jan-30	0.00	99.45	N/A
LXXIV	Fixed - 10 Year	11.70%	9.53	0.26	9-Jan-25	9-Jan-35	0.00	99.42	N/A
LXXV	Fixed - 1 Year	10.25%	0.60	4.15	4-Feb-25	3-Feb-26	0.00	94.16	N/A
LXXVI	Fixed - 1 Year	11.00%	0.68	6.36	7-Mar-25	6-Mar-26	0.00	93.19	N/A
LXXVII	Fixed - 3 Year	11.49%	2.69	12.00	7-Mar-25	7-Mar-28	0.00	101.13	N/A
LXXVIII	Fixed - 5 Year	11.98%	4.69	15.90	7-Mar-25	7-Mar-30	0.00	101.25	N/A
LXXIX	Fixed - 1 Year	10.89%	0.83	32.68	2-May-25	30-Apr-26	0.00	91.78	N/A
LXXX	Fixed - 3 Year	11.49%	2.84	9.56	2-May-25	2-May-28	0.00	101.23	N/A
LXXX	Fixed - 1 Year	10.25%	0.84	40.67	2-May-25	2-May-26	0.00	91.62	N/A
LXXX	Fixed - 3 Year	10.85%	2.92	27.28	30-May-25	30-May-28	0.00	100.00	N/A
LXXX	Fixed - 5 Year	10.87%	4.92	6.91	30-May-25	30-May-30	0.00	100.00	N/A
LXXX	Fixed - 10 Year	12.19%	9.92	10.00	30-May-25	30-May-35	0.00	31.67	N/A
				1,634.47					

Source: SBP/PSX and MUFAP



Equity Review

The Pakistan Equity market posted stellar performance for the second consecutive year in FY25. The KSE-100 index closed at a new all-time high of 125,627 points, delivering an impressive return of 60.15% on top of 89.24% gain recorded in FY24. Similarly, the KMI-30 Index rose 46.24% to close the year at 184,887 points, adding to the 78.70% return in the prior year. This robust performance was supported by continued macroeconomic improvement and a significant increase in liquidity inflows into the equity market, leading to a broad-based market re-rating. Pakistan equity market traded at a forward P/E multiple of 4 times at the start of year, re-rated to 6.3 times by year-end, reflecting improved investor confidence and earnings visibility.

The successfully negotiated IMF program in September 2024 and the new RSF program, which followed the timely completion of the short-term IMF SBA program by April 2024 were among the key drivers of investor sentiments, as these developments supported SBP's forex reserves in reaching their highest level in the past three years.

Sharp interest rate decline throughout FY25, a sustained current account surplus for most of the year and continued fiscal consolidation also added to the positive sentiments. The sharp monetary easing helped elevate corporate profitability, through lower finance costs and greater demand. The easing also drove a shift of capital to the equity market from other asset classes, notably from fixed income and real estate.

Average daily traded volume at the Pakistan Stock Exchange rose 37% YoY to 633 million shares, while average daily value traded rose 83% to USD 101 million. This activity was predominantly concentrated among large-cap stocks, reflecting both investor confidence and the underlying quality and sustainability of the market's performance.

The market also showed great resilience throughout the year. Particularly on the external front, a series of geopolitical and regional challenges briefly impacted investor sentiment. In early May 2025, India accused Pakistan for involvement in a terror attack in Indian-occupied Kashmir and initiated a military conflict with Pakistan. The KSE-100 index fell by a staggering 6,482 points, the largest ever decline in a day in absolute terms, following the first night of the conflict. However, the US government-brokered ceasefire between the two countries, quickly restored stability. In response, the KSE-100 index surged immediately after the ceasefire and cruised along to new record levels by the end of FY25. In June 2025, Israel instigated a war with Iran by attacking its nuclear facilities. This conflict, too, was contained by US intervention. Global oil prices surged over 20% during the 12-day Iran-Israel conflict to almost USD 80 per barrel, but then receded as a ceasefire agreement was reached.

Global trade dynamics also influenced market sentiment. The announcement of tariffs by U.S. President Donald Trump in 2025 created headwinds across Asian markets. Nevertheless, Pakistan's equity market displayed notable resilience, buoyed by improving domestic fundamentals and sustained investor optimism over the country's long-term growth outlook.

Equity flows

In FY25, the equity market experienced significant shifts in investment flows between Mutual Funds and Foreign Corporates. Mutual Funds were prominent net buyers, investing a substantial net USD 232 million in the bourse. Their purchases were broad-based, with nearly half of the inflows directed toward Commercial Banks, Fertilizers, Oil & Gas Exploration, and Oil Marketing sectors. Local buying was further bolstered by Corporates and Individuals, who collectively added a net of USD 162 million to the market. Conversely, Foreign Corporates were the primary sellers, offloading net USD 329 million in stocks across various sectors. The heaviest net selling occurred in the Commercial Banking sector, with a USD 127 million sell-off, followed by Oil & Gas Exploration USD 76 million and Fertilizer USD 68 million sectors.

Major contributors to the Index:

Among the key sectors, Cement, Oil & Gas Exploration, Oil & Gas Marketing, and Fertilizer sectors were the best-performing sectors in the KMI-30 index. The top contributing stocks in the index during FY25 were:


Major positive contributors to the Index	Contribution to KMI30 Index (Points)	Total return
Mari Energies Ltd	9,862	116.20%
Lucky Cement Ltd	8,470	99.29%
Meezan Bank Ltd	5,933	55.08%
Pakistan State Oil Company Ltd	5,664	138.67%

On the flip side, Investment Companies, Power Generation & Distribution, Automobile Assembler, and Chemical sectors were among the underperforming sectors. The key laggards in the KMI-30 index during the FY25 were:

Major negative contributors to the Index	Contribution to KMI30 Index (Points)	Total return
Engro Holdings Ltd	-1,786*	-23.27%*
The Hub Power Company Ltd	-1,618	-7.10%
Millat Tractors Ltd	-338	-5.92%
Engro Polymer & Chemicals Ltd	-334	-29.76%

*reflecting six months performance since DAWH was demerged into ENGROH in Jan 2025

The following graph shows the movement of KMI30 Index during the FY25 along with key driving factors:





Mutual Fund Industry Review


During FY25, the AUMs of the mutual fund industry surged by 44% to Rs. 3,809 bn. Shariah Compliant AUMs grew by 35% to Rs. 1,778 bn. However, the market share of Shariah-compliant funds within the overall mutual fund industry declined from 50% to 47% during this period. Al Meezan's market share in the Mutual Funds industry stood at 16%; while amongst the Shariah Compliant Funds, it stood at 33%, the highest in the industry by the end of June 2025. In the Pension Fund category, Meezan Tahaffuz Pension Fund's market share stood at 31% while amongst the Shariah Compliant Funds, it stood at 48%, the highest in the industry by the end of June 2025.

	FY24	FY25	Change
	(Rs. In Billion)		(%)
<u>Sovereign, Money Market and Income Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	1,173	1,498	27.7
Conventional Funds	1,151	1,707	48.3
Total Funds	2,324	3,205	37.9
<u>Equity Funds (Including Index Tracker Funds)</u>			
Shariah Compliant Funds	70	148	110.9
Conventional Funds	143	271	89.9
Total Funds	213	419	96.8
<u>Capital Protected, balanced, and asset allocation Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	26	54	108.9
Conventional Funds	13	16	25.4
Total Funds	39	70	81.8
<u>Commodity Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	2	5	212.5
Total Funds	2	5	212.5
<u>Voluntary Pension Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	49	72	46.4
Conventional Funds	26	37	42.8
Total Funds	75	108	45.2
Total Industry	2,653	3,809	43.6




Al Meezan's Market Share in the Industry

Market Share in Overall Industry




Market Share in Islamic Industry




Meezan Tahaffuz Pension Fund Market Share in the Industry

Market Share in Overall Industry



Market Share in Islamic Industry





Performance Review (Funds)

The table below depicts a summary of FY25 performance of funds under our management:

Funds	Type	Net Assets Rs. in millions	Growth in Net Assets for FY25 (%)	Returns for FY25 (%)	Benchmark for FY25 (%)	
Money Market/Fixed Income Funds						
Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF)	Money Market	66,479	-42	13.62	9.93	
Meezan Cash Fund (MCF)	Money Market	225,271	213	13.34	9.93	
Meezan Daily Income Fund (MDIP-1)	Income	43,242	-70	13.38	10.37	
Meezan Daily Income Fund – MMMP	Income	2,282	-74	11.15	10.37	
Meezan Sehl Account Plan (MDIF-SEHL)	Income	147	63	10.34	10.37	
Meezan Munafa Plan-I (MDIF-MMP-I)	Income	50,033	1,724	12.95	10.37	
Meezan Super Saver Plan (MDIF-SSP)	Income	7,216	692	12.75	10.37	
Meezan Sovereign Fund (MSF)	Income	28,663	-51	12.00	13.16	
Meezan Islamic Income Fund (MIIF)	Income	21,553	35	12.54	10.37	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XIV*	Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022	22	-	11.03	11.74	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XX*		1,452	-	10.56	10.40	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XXI*		39,219	-	-	-	
Equity Funds						
Meezan Islamic Fund (MIF)	Equity	43,811	90	59.22	46.24	
Al Meezan Mutual Fund (AMMF)	Equity	12,926	165	64.70	46.24	
KSE Meezan Index Fund (KMIF)	Equity	4,702	18	43.52	46.24	
Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF)	Equity	373	-3	65.72	46.24	
Meezan Energy Fund (MEF)	Equity	3,324	193	53.99	46.24	
Pension Fund Scheme						
Meezan Tahaffuz Pension Fund	Pension Fund Scheme					
Equity sub Fund		8,664	64	65.72		
Debt sub Fund		9,615	40	14.38		
Money Market sub Fund		14,303	19	15.43		
Gold Sub Fund		977	108	39.51		
Meezan GOKP Pension Fund						
Money Market sub Fund	GOKP Pension Fund	446	306	15.77		
Balanced Fund						
Meezan Balanced Fund (MBF)	Balanced	3,394	77	36.60	28.40	
Asset Allocation Fund						
Meezan Asset Allocation Fund (MAAF)	Asset Allocation	593	90	58.21	39.97	
Meezan Dynamic Asset Allocation Fund (MDYP-MDAAF)*		293	-	45.92	42.53	
Commodity Fund						
Meezan Gold Fund (MGF)	Commodity	5,372	213	42.72	37.23	
Exchange Traded						
Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MZNP-ETF)	Exchange Traded	295	204	31.76	33.38	
Fund of Funds						
Meezan Financial Planning Fund of Fund						
Aggressive	Fund of Fund	196	123	47.76	38.23	
Moderate		150	118	36.27	30.86	
Conservative		93	91	23.79	22.11	
Very Conservative Allocation Plan (MPFP-V. Con)		15	1,342	10.62	11.76	
MAAP-I		135	45	46.47	33.85	
Meezan Strategic Allocation Fund						
MSAP-I		110	18	50.05	33.80	
MSAP-II		49	17	49.59	31.63	
MSAP-III		117	17	47.14	32.87	
MSAP-IV		77	15	45.51	32.88	
MSAP-V	44	6	44.11	32.07		

*Launched MPMP-XIV (Feb 03`25), MPMP-XX (May 29`25), MPMP-XXI (June 25`25), MDYP-MDAAF (Aug 28`24)



Performance Review (Funds)

Meezan Rozana Amdani Fund

The net assets of Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF) at June 30, 2025 were Rs. 66,479 million compared to Rs. 114,606 million at June 30, 2024, a decrease of 42%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 50.00. During the year, the fund provided an annualized return of 13.62% as compared to the benchmark annualized return of 9.93%. At the end of the reporting period, 5% of the fund was in Placements with Islamic Banks and DFIs, 28% in GoP Ijarah Sukuk, 17% in Bai Muajjal Placement and 11% in Sukuks and Commercial Paper, 37% of the total assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 2% in others.

Meezan Cash Fund

The net assets of Meezan Cash Fund (MCF) at June 30, 2025 were Rs. 225,271 million compared to Rs. 71,892 million at June 30, 2024, an increase of 213%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 51.4276. During the year the fund provided an annualized return of 13.34% as compared to the benchmark annualized return of 9.93%. At the end of the reporting period, 27% of the fund was placed in Bai Muajjal Placement, 16% of the fund was placed in Placements with Banks and DFIs, 17% in GoP Ijarah Sukuk, 6% in Sukuks and Commercial Paper, 29% of the total assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 5% in others.

Meezan Islamic Income Fund

The net assets of Meezan Islamic Income Fund (MIIF) at June 30, 2025 were Rs. 21,553 million compared to Rs. 15,980 million at June 30, 2024, an increase of 35%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 51.7785. During the year the fund provided an annualized return of 12.54% compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, the fund was 43% invested in GoP Ijarah/Guaranteed Sukuks, 11% in Sukuks, 12% in Placements with Banks and Modarabas, 30% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 4% in others.

Meezan Sovereign Fund

The net assets of Meezan Sovereign Fund (MSF) at June 30, 2025 were Rs. 28,663 million compared to Rs. 58,055 million at June 30, 2024, a decrease of 51%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 52.2741. During the year the fund provided an annualized return of 12.00% compared to the benchmark annualized return of 13.16%. At the end of the reporting period, the fund was 75% invested in GoP Ijarah/Guaranteed Sukuks, 19% of the assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 6% in others.

Meezan Daily Income Fund

Meezan Daily Income Fund – MDIP – I

The net assets of the plan at June 30, 2025 were Rs. 43,242 million compared to Rs. 146,252 million at June 30, 2024, a decrease of 70%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 50.00. During the year, the plan provided an annualized return of 13.38% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, 28% of the fund was invested in GoP Ijarah Sukuk, 2% in Sukuks and Commercial Paper, 18% in Bai Muajjal Placement, 6% in Placements with Banks, NBFC and Modaraba, 44% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 2% in others.

Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan)

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 2,282 million compared to Rs. 8,656 million at June 30, 2024, a decrease of 74%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.00. During the year, the plan provided an annualized return of 11.15% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, 33% of the Fund was in Placements



with Banks and DFIs, 66% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 1% in others.

Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan I)

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 50,033 million compared to Rs. 2,742 million at June 30, 2024, an increase of 1724%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.3779. During the year, the plan provided an annualized return of 12.95% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, the plan was 3% invested in GoP Ijarah Sukuk, 7% in Sukuks, 27% in Placements with NBFCs and Modarabas, 57% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 6% others.

Meezan Sehl Account Plan - MDIF-SEHL

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 147 million compared to Rs. 90 million at June 30, 2024, an increase of 63%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.4811. During the year, the plan provided an annualized return of 10.34% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, 99% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 1% in others.

Meezan Super Saver Plan - MDIF-SSP

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 7,216 million compared to Rs. 912 million at June 30, 2024, an increase of 692%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.3665. During the year, the plan provided an annualized return of 12.75% as compared to the benchmark annualized return of 10.37%. At the end of the reporting period, the plan was 17% invested in GoP Ijarah Sukuk, 81% of the net assets were placed with Islamic banks or windows of Islamic banks and 2% in others.

Meezan Fixed Term Fund

Meezan Paidaar Munafa Plan -XIV

Meezan Paaidaar Munafa Plan – XIV was launched on February 03, 2025. The net assets of the plan as at June 30, 2025 stood at Rs. 22 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.0724. During the period, the plan provided an annualized return of 11.03% as compared to the benchmark annualized return of 11.74%. At the end of the reporting period, the plan was 9% invested in GoP Ijarah Sukuk and 91% in Placement with Islamic Bank and DFIs.

Meezan Paidaar Munafa Plan -XX

Meezan Paaidaar Munafa Plan – XX was launched on May 29, 2025. The net assets of the plan as at June 30, 2025 stood at Rs. 1,452 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 50.1770. During the period, the plan provided an annualized return of 10.56% as compared to the benchmark annualized return of 10.40%. At the end of the reporting period, the plan was 91% invested in GoP Ijarah Sukuk and 9% in Placement with Bank and DFIs.

Meezan Paidaar Munafa Plan -XXI

Meezan Paaidaar Munafa Plan – XVII was launched on June 25, 2025 and the subscription period was from June 25, 2025 till July 03, 2025. The subscription received till June 30, 2025 was at Rs. 39,219 million. At the end of the reporting period, the plan was 100% in Placement with Islamic Bank.

Meezan Islamic Fund

The net assets of Meezan Islamic Fund (MIF) as at June 30, 2025 were Rs. 43,811 million compared to Rs. 23,095 million at the end of June 30, 2024, an increase of 90%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 129.0058. During the year the fund provided an annualized return of 59.22% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 46.24%.



Al Meezan Mutual Fund

The net assets of Al Meezan Mutual Fund (AMMF) as at June 30, 2025 were Rs. 12,926 million compared to Rs. 4,874 million at June 30, 2024, an increase of 165%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 39.8818. During the year the fund provided an annualized return of 64.70% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 46.24%.

KSE Meezan Index Fund

The net assets of KSE Meezan Index Fund (KMIF) as at June 30, 2025 were Rs. 4,702 million compared to Rs. 3,973 million at June 30, 2024, an increase of 18%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 139.6180. During the year the fund provided an annualized return of 43.52% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 46.24%.

Meezan Dedicated Equity Fund

The net assets of Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF) as at June 30, 2025 were Rs. 373 million compared to Rs. 385 million at June 30, 2024, a decrease of 3%. The net asset value per unit (NAV) at June 30, 2025 was Rs. 76.2315. During the year the fund provided an annualized return of 65.72% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 46.24%.

Meezan Energy Fund

The net assets of Meezan Energy Fund (MEF) as at June 30, 2025 were Rs. 3,324 million compared to Rs. 1,136 million at June 30, 2024, an increase of 193%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 49.4884. During the year the fund provided an annualized return of 53.99% compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 46.24%.

Meezan Tahaffuz Pension Fund (MTPF)

MTPF comprises four sub-funds, namely Equity sub-fund, Debt sub-fund, Money Market sub-fund and Gold sub-fund. For the year ended June 30, 2025, the equity sub-fund provided a return of 65.72% and gold sub-fund provided a return of 39.51%, while the debt and money market sub-funds provided annualized returns of 14.38% and 15.43% respectively. Performance review for each sub-fund is given as under:

Equity Sub Fund

The net assets of this sub-fund stood at Rs. 8,664 million at June 30, 2025 compared to Rs. 5,267 million at June 30, 2024, an increase of 64%. The net asset value (NAV) per unit of the sub-fund was Rs. 1,427.7175 at the end of June 30, 2025 as compared to Rs. 861.5410 as at June 30, 2024.

Debt Sub Fund

The net assets of this sub-fund stood at Rs. 9,615 million at June 30, 2025 compared to Rs. 6,846 million at June 30, 2024, an increase of 40%. The net asset value per (NAV) unit of the sub-fund was Rs. 481.6859 at the end of June 30, 2025 as compared to Rs. 421.1214 as at June 30, 2024.

Money Market Sub Fund

The net assets of this sub-fund stood at Rs. 14,303 million at June 30, 2025 compared to Rs. 12,046 million at June 30, 2024, an increase of 19%. The net asset value (NAV) per unit of the sub-fund was Rs. 478.6617 at the end of June 30, 2025 as compared to Rs. 414.6721 as at June 30, 2024.

Gold Sub Fund

The net assets of this sub-fund stood at Rs. 977 million at June 30, 2025 compared to Rs. 471 million at June 30, 2024, an increase of 108%. The net asset value (NAV) per unit of the sub-fund was Rs. 430.1093 at the end of June 30, 2025 as compared to Rs. 308.3108 as at June 30, 2024.

Meezan GOKP Pension Fund (MGOKPPF)

MGOKPPF comprises a sub-fund, namely the Money Market sub-fund. For the year ended June 30, 2025, the money market sub-fund provided annualized returns of 15.77%. The net assets of the sub-fund stood at Rs. 446 million at June 30, 2025 compared to Rs. 110 million at June 30, 2024, an increase of 306%. The net



asset value (NAV) per unit of the sub-fund was Rs. 129.6220 at the end of June 30, 2025 as compared to Rs. 111.9656 as at June 30, 2024.

Meezan Balanced Fund

The net assets of Meezan Balanced Fund (MBF) as at June 30, 2025 were Rs. 3,394 million compared to Rs. 1,913 million at June 30, 2024, an increase of 77%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 23.8078. During the year the fund provided an annualized return of 36.60% compared to the benchmark return of 28.40%.

Meezan Asset Allocation Fund

The net assets of Meezan Asset Allocation Fund (MAAF) as at June 30, 2025 were Rs. 593 million compared to Rs. 312 million at June 30, 2024, an increase of 90%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 95.0216. During the year the fund provided an annualized return of 58.21% compared to the benchmark return of 39.97%.

Meezan Dynamic Asset Allocation Fund

Meezan Dividend Yield Plan (MDYP) under Meezan Dynamic Asset Allocation Fund was launched on August 28, 2024. The net assets of Meezan Dividend Yield Plan (MDYP) as at June 30, 2025 were Rs. 293 million. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 67.8166. During the period, the plan provided an annualized return of 45.92% compared to the benchmark return of 42.53%.

Meezan Gold Fund

The net assets of Meezan Gold Fund (MGF) as at June 30, 2025 were 5,372 million compared to Rs. 1,719 million at June 30, 2024, an increase of 213%. The net asset value (NAV) per unit at June 30, 2025 was Rs. 230.5621. During the year the fund provided an annualized return of 42.72% compared to the benchmark return of 37.23%.

Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

The net assets of Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MPETF) as at June 30, 2025 were Rs. 295 million compared to Rs. 97 million at June 30, 2024, an increase of 204%. The net asset value (NAV) per unit as at June 30, 2025 was Rs. 15.5347. During the year the fund provided an annualized return of 31.76% compared to the benchmark return of MZNPI of 33.38%.

Meezan Financial Planning Fund of Funds

Aggressive Allocation Plan

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 196 million compared to Rs. 88 million at June 30, 2024, an increase of 123%. The plan provided a return of 47.76% during the year compared to the benchmark return of 38.23%.

Moderate Allocation Plan

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 150 million compared to Rs. 69 million at June 30, 2024, an increase of 117%. The plan provided a return of 36.27% during the year compared to the benchmark return of 30.86%.

Conservative Allocation Plan

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 93 million compared to Rs. 49 million at June 30, 2024, an increase of 90%. The plan provided a return of 23.79% during the year compared to the benchmark return of 22.11%.

Very Conservative Allocation Plan

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 15 million compared to Rs. 1 million at June 30, 2024, an increase of 1400%. The plan provided a return of 10.62% during the year compared to the benchmark return of 11.76%.



Meezan Asset Allocation Plan-I

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 135 million compared to Rs. 93 million at June 30, 2024, an increase of 45%. The plan provided a return of 46.47% during the year compared to the benchmark return of 33.85%.

Meezan Strategic Allocation Fund

Meezan Strategic Allocation Plan-I

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 110 million compared to 94 million at June 30, 2024, an increase of 17%. The plan provided a return of 50.05% during the year compared to the benchmark return of 33.80%.

Meezan Strategic Allocation Plan-II

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 49 million compared to Rs. 42 million at June 30, 2024, an increase of 17%. The plan provided a return of 49.59% during the year compared to the benchmark return of 31.63%.

Meezan Strategic Allocation Plan-III

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 117 million compared to Rs. 101 million at June 30, 2024, an increase of 16%. The plan provided a return of 47.14% during the year compared to the benchmark return of 32.87%.

Meezan Strategic Allocation Plan-IV

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 77 million compared to Rs. 67 million at June 30, 2024, an increase of 15%. The plan provided a return of 45.51% during the year compared to the benchmark return of 32.88%.

Meezan Strategic Allocation Plan-V

The net assets of the plan as at June 30, 2025 were Rs. 44 million compared to Rs. 42 million at June 30, 2024, an increase of 5%. The plan provided a return of 44.11% during the year compared to the benchmark return of 32.07%.

Outlook

The Pakistan stock market delivered a remarkable 60% return in FY25, marking its third best performance in three decades and placing it among the top-performing global markets. With the corporate earnings season approaching, the market outlook for PSX remains firmly positive, supported by sustained institutional inflows, and strong reform momentum. The continuation of monetary easing cycle is likely, as falling inflation, driven by fiscal discipline, a stable currency, and an improved external account, creates further room for policy rate cuts. Recent credit rating upgrades by international rating agencies reflect growing investor confidence in Pakistan's economic trajectory. Combined with ongoing structural reforms and a supportive macroeconomic backdrop, these factors are expected to keep equities in focus. Despite the recent rally, the PSX is currently trading at a forward P/E of only 6.3 times, below its historical average of 7-8x and far from its peak levels above 10x. This suggests current prices only reflect past earnings growth, with ample room for further upside as macro and corporate fundamentals continue to improve.

However, developments in Pakistan-USA relations will continue to influence market sentiment. Additionally, geo-political developments in the Middle East region are likely to have broader macroeconomic implications for Pakistan amidst Pakistan's dependency on oil imports and could determine market performance.

On the fixed income front, the SBP is anticipated to adopt dovish monetary policy stance in FY26, supported by improvements in macroeconomic fundamentals and sovereign creditworthiness. Recent auctions of government securities reflect this sentiment where yields on Treasury Bills (T-Bills), Pakistan Investment Bonds (PIBs), and Government of Pakistan Ijarah Sukuk have declined. This downward adjustment in yields



underscores increasing market confidence in the government’s economic reform agenda, fiscal consolidation efforts, and the SBP’s commitment to maintaining financial and price stability.

Auditors

S. No	Fund Name	Name of auditors as of June 30, 2025	Status of appointment for the year ending June 30, 2026
1)	Al Meezan Mutual Fund	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants	M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
2)	KSE Meezan Index Fund		
3)	Meezan Asset Allocation Fund		
4)	Meezan Balanced Fund		
5)	Meezan Cash Fund		
6)	Meezan Daily Income Fund		
7)	Meezan Dedicated Equity Fund		
8)	Meezan Energy Fund		
9)	Meezan Islamic Fund		
10)	Meezan Islamic Income Fund		
11)	Meezan Pakistan Exchange Traded Fund		
12)	Meezan Rozana Amdani Fund		
13)	Meezan Sovereign Fund		
14)	Meezan Strategic Allocation Fund	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants	M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on the recommendation of Board Audit Committee to be the auditors of the Funds.
15)	Meezan Financial Planning Fund of Funds		
16)	Meezan Fixed Term Fund		
17)	Meezan Gold Fund		
18)	Meezan Tahaffuz Pension Fund		
19)	Meezan GOKP Pension Fund		
20)	Meezan Dynamic Asset Allocation Fund		

Further, M/s Yousuf Adil & Co., Chartered Accountants have been approved by the Board on the recommendation of Board Audit Committee to be the Shariah Auditors of the aforementioned twenty (20) Funds for the year ending June 30, 2026.

Names of the Directors who at any time served during the year:

Name	Category
Mr. Irfan Siddiqui	Chairman
Mr. Ahmed Iqbal Rajani*	Non-Executive Nominee Director- PKIC
Ms. Ayesha Umer*	Non-Executive Nominee Director- PKIC
Ms. Danish Zuberi	Independent Director
Mr. Feroz Rizvi	Independent Director
Mr. Furquan Kidwai	Independent Director
Mr. Imtiaz Gadar**	Chief Executive Officer
Mr. Saad Ur Rahman Khan	Non-Executive Nominee Director- PKIC
Ms. Shazia Khurram	Non-Executive Nominee Director- MBL
Syed Amir Ali	Non-Executive Nominee Director- MBL



Syed Imran Ali Shah***	Non-Executive Nominee Director- MBL
Mr. Tariq Mairaj***	Non-Executive Nominee Director- MBL

*Mr. Ahmed Iqbal Rajani resigned as the Director on January 13, 2025 and Ms. Ayesha Umer has been appointed as Director in his place.

** Mr. Imtiaz Gadar assumed office as the Chief Executive Officer on August 01, 2024.

***Mr. Tariq Mairaj resigned as the Director on September 10, 2024 and Syed Imran Ali Shah was appointed in his place.

Composition of the Board

In line with the requirements of the Code of Corporate Governance (CCG), the Company encourages the representation of Independent and Non-Executive Directors as well as gender diversity. The Board of Al Meezan is comprised as per the best practices of CCG. The current composition of the Board and its Committees is as follows:

Non-Executive Directors	1. Mr. Irfan Siddiqui – Chairman
	2. Ms. Ayesha Umer
	3. Mr. Saad Ur Rahman Khan
	4. Ms. Shazia Khurram
	5. Syed Amir Ali
	6. Syed Imran Ali Shah
Independent Directors	1. Ms. Danish Zuberi
	2. Mr. Feroz Rizvi
	3. Mr. Furquan Kidwai
Executive Director	1. Mr. Imtiaz Gadar – Chief Executive Officer
Female Directors	1. Ms. Ayesha Umer
	2. Ms. Danish Zuberi
	3. Ms. Shazia Khurram

Board Committees	Members/Chairman
Board Audit Committee	1. Mr. Feroz Rizvi – Chairman 2. Ms. Ayesha Umer- Member 3. Syed Imran Ali Shah - Member
Board Risk Management Committee	1. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Chairman 2. Mr. Furquan R Kidwai – Member 3. Ms. Shazia Khurram – Member
Board Human Resources & Remuneration Committee	1. Mr. Irfan Siddiqui – Chairman 2. Mr. Furquan R Kidwai – Member 3. Mr. Imtiaz Gadar - Member 4. Mr. Saad Ur Rahman Khan – Member
Board IT Committee	1. Mr. Furquan Kidwai – Chairman 2. Mr. Faiz Ur Rehman, Subject Matter Expert 3. Mr. Imtiaz Gadar - Member



Sustainability Risks and Opportunities

The Board of Directors recognizes the importance of sustainability and the long-term impact of environmental, social, and governance (ESG) as well as Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) factors on the Company's performance and stakeholder value.

To strengthen the oversight and effective management of ESG and DE&I initiatives, the Board has entrusted these responsibilities to the Board Risk Management Committee. The Committee is well-positioned to handle these matters, given its expertise in risk oversight, strategic governance, and sustainability-related frameworks. Further, the Committee is composed of qualified members with relevant experience, including one female director which will monitor the implementation of ESG and DE&I strategies, assess related risks, and ensure alignment with the Company's long-term objectives and stakeholder expectations.

Board Evaluation

The Board of Directors and its Committees are comprised of qualified professionals with diversified experience who oversees the organizational activities. The Board and its Committees are abreast with the contemporary governance role and set strategic tone for the business model, overall objectives, approach to risk taking and the limits of organizational conduct.

The Board of Directors and its Committees periodically conduct self-assessment of their performance. Accordingly, a Comprehensive Board Evaluation Questionnaire is approved by the Board and its Committees annually. Following the submission of self-assessment questionnaire, the Board and its Committees evaluation report is compiled and necessary actions are put into effect in consultation with the Chairman of the Board and of its committees.

Directors' Remuneration

The Company has a formal and transparent procedure for remuneration of directors in accordance with the Articles of Association of the Company and the Companies Act, 2017. The level of remuneration is appropriate and commensurate with market practice and the level of responsibility and expertise offered by the members of the Board and its Committees. Remuneration of Board members and its Committees is recommended by the Board and approved by shareholders in the General Meeting. The Chief Executive Officer of the Company, being an Executive Director, is not entitled to any remuneration for attending any Board Meeting or a meeting of Board Committees. Further, the Company does not pay any remuneration to non-Executive including the Independent Directors except fee for attending the meetings.

Acknowledgement

We take this opportunity to thank our valued investors for reposing their faith in Al Meezan Investments, the largest asset management company in Pakistan. We also thank the regulator, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and our Trustee, the Central Depository Company of Pakistan, for their support. Likewise, we would like to thank the members of the Shariah Supervisory Board of Meezan Bank for their continued assistance and support on Shariah aspects of fund management.

For and on behalf of the Board.

Imtiaz Gadar
Chief Executive

Director

Date: August 18, 2025

ڈائریکٹرز رپورٹ - زیر انتظام فنڈز

بورڈ آف ڈائریکٹرز، المیز ان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ، مالی سال 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے درج ذیل اوپن اینڈ فنڈز اور رضا کارانہ پنشن اسکیم کے مالیاتی گوشوارے پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے:

منی مارکیٹ فنڈز

1. میزان روزانہ آمدنی فنڈ

2. میزان کیش فنڈ

انکم فنڈز

3. میزان اسلامک انکم فنڈ

4. میزان سوورن فنڈ

5. میزان ڈیلی انکم فنڈ

شریعت کے مطابق مقررہ منافع / شرح یا اوپن اینڈ کلیکیٹیو انویسٹمنٹ اسکیمز (SECP کے سرکلر نمبر 3، 2022 کے مطابق)

6. میزان فکسڈ ٹرم فنڈ

ایجوٹیو فنڈز

7. میزان اسلامک فنڈ

8. المیز ان میوچل فنڈ

9. کے ایس ای - میزان انڈیکس فنڈ

10. میزان ڈیڈیکٹیو ایجوٹیو فنڈ

11. میزان انرجی فنڈ

پنشن فنڈز

12. میزان تحفظ پنشن فنڈ

13. میزان جی او کے پی پنشن فنڈ

بیلنسڈ فنڈ

14. میزان بیلنسڈ فنڈ

ایسیٹ ایلوکیشن فنڈز

15. میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

16. میزان ڈائنامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

کوڈینی فنڈ

17. میزان گولڈ فنڈ

ایکسیج ٹریڈ فنڈ

18. میزان پاکستان ایکسیج ٹریڈ فنڈ

فنڈز آف فنڈز

19. میزان فنانشل پلاننگ فنڈز آف فنڈز

20. میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ

مالی سال 2025 کے دوران پاکستان نے پائیدار نمو کی جانب اپنی محتاط پیش رفت جاری رکھی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے 37 ماہ کے توسیعی فنڈ سہولت (EFF) پروگرام میں 7 ارب امریکی ڈالر کی شمولیت ملک میں وسیع پیمانے پر معاشی استحکام کی بنیاد بنی۔ اس پروگرام نے ساختی اصلاحات کو فروغ دینے اور معاشی اعتماد کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نتیجتاً پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس ریکارڈ کیا، افراط زر میں نمایاں کمی آئی جس کے ساتھ مالیاتی نرمی کی گئی، مالیاتی نظم و ضبط حاصل ہوا، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ مالی سال کے اختتام پر پاکستان نے IMF کے ماحولیاتی نوعیت کے ریزیلینس اینڈ سسٹین لہ بلسٹی سہولت (RSF) پروگرام کے تحت 1.4 ارب امریکی ڈالر کی 28 ماہ کی نئی معاونت بھی حاصل کی۔

افراط زر میں کمی کاربحان، جو مالی سال 2024 کی دوسری ششماہی میں شروع ہوا، مالی سال 2025 میں بھی برقرار رہا۔ سالانہ اوسط افراط زر 4.5 فیصد رہا، جو گزشتہ سال کی 23.4 فیصد شرح سے نمایاں کمی تھی۔ یہ نمایاں بہتری گزشتہ سال کے بلند افراط زر کے تقابلی اثر، خوراک اور عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی، اور زر مبادلہ کی شرح میں استحکام کے باعث ممکن ہوئی۔ افراط زر کے دباؤ میں واضح کمی کے رد عمل میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ برطابق جون 2024، 22 فیصد سے کم کر کے مئی 2025 تک 11 فیصد کر دیا، جو مالیاتی پالیسی میں نرمی کی جانب رجحان کی علامت ہے۔

مالی سال 2025 کے دوران پاکستانی روپیہ مجموعی طور پر مستحکم رہا، جس میں صرف 2 فیصد کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس استحکام کو زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور بیرونی کھاتے کی سازگار صورت حال نے سہارا دیا۔ سال بھر میں تقریباً 10 بلین امریکی ڈالر کے قرضوں کی کامیابی ادائیگی کے باوجود، ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 5.1 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا، جو مالی سال کے اختتام پر 14.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئے، جبکہ گزشتہ سال اسی وقت یہ 9.4 بلین ڈالر تھے۔ یہ بہتری بنیادی طور پر کثیر الجہتی مالیاتی اداروں سے موصول ہونے والی رقوم، بشمول آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری کی گئی ادائیگیوں، اور 14 سال بعد پہلی بار مکمل مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس کی بدولت ممکن ہوئی۔ مالی سال 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 2.1 بلین ڈالر کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں اتنے ہی حجم کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بنیادی خسارہ سال بہ سال بنیاد پر تقریباً مستحکم رہا، جس میں صرف 1 فیصد کی معمولی کمی آئی۔ اگرچہ تجارتی خسارہ 21 فیصد بڑھا، لیکن اسے سال بہ سال بنیاد پر 27 فیصد اضافے کے ساتھ ترسیلات زر نے مؤثر طور پر زائل کر دیا، جو 38.3 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ترسیلات زر میں اس اضافے کی وجوہات میں زر مبادلہ کی مستحکم شرح، رقم کی منتقلی کے غیر قانونی ذرائع کے خلاف کارروائیاں، انٹرنیٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹس کے درمیان فرق میں کمی، اور حالیہ برسوں میں ہنرمند افرادی قوت کی بیرون ملک منتقلی میں اضافہ شامل ہیں۔

مالیاتی کھاتے میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی، جہاں مالیاتی خسارہ گزشتہ سال کے 6.8 فیصد کے مقابلے میں مالی سال 2025 میں کم ہو کر 5.6 فیصد رہ گیا۔ مجموعی محصولات میں 4.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ اخراجات پر محتاط کنٹرول کے باعث ان میں صرف 2.4 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا، جس سے مالیاتی توازن بہتر ہوا۔ ملک نے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں مالیاتی سرپلس بھی حاصل کیا۔ جو گزشتہ 24 برسوں میں پہلی بار ریکارڈ ہوا۔ اگرچہ ایف بی آر نے 11.7 ٹریلین روپے کی وصولیوں کے باوجود بجٹ ہدف حاصل نہیں کیا اور ایک ٹریلین روپے سے زائد کا خسارہ رہا، تاہم مجموعی طور پر محصولات میں 26 فیصد اضافہ کیا گیا۔ غیر ٹیکس آمدنی میں بھی 61 فیصد کا نمایاں اضافہ ہوا، جو مالی سال کے اختتام پر 4.9 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی۔ اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ منافع، جو مالی سال 2024 میں بلند شرح سود کی بنیاد پر حاصل ہوا، اور پیٹرولیم لیوی کی وصولیاں کلیدی عوامل رہے۔ دوسری جانب، اخراجات میں اضافہ شرح سود میں نمایاں کمی کے باعث روک دیا گیا، جبکہ نان مارک اپ اخراجات بھی کفایت شعاری اور مؤثر مالی نظم و نسق کے ذریعے قابو میں رکھے گئے۔ قابل ذکر طور پر، مالی سال 2025، مسلسل دوسرا سال رہا جس میں ملک نے پرائمری سرپلس حاصل کیا، جو بی ڈی پی کے 2.2 فیصد کے برابر رہا، جو گزشتہ سال 0.9 فیصد تھا۔

پاکستان کی معاشی صحت میں نمایاں بہتری کا اظہار بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں Moody's اور Fitch کی جانب سے ملک کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے بھی ہوا، جہاں Moody's نے پاکستان کے معاشی منظر نامے کو 'Stable' سے بڑھا کر 'Positive' کر دیا۔

معنی مارکیٹ جائزہ

مالی سال 2025 کے دوران معاشی اشاریوں میں بہتری کے پیش نظر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالیاتی پالیسی میں نرمی کی جانب رجحان اختیار کیا، جس کے نتیجے میں سال بھر شرح سود میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ مالی سال کے اختتام پر شرح سود مستحکم رہی۔ شرح سود میں اس استحکام کی وجہ ممکنہ تجارتی خسارے میں اضافہ، غیر یقینی بیرونی مالی معاونت، اور عالمی سطح پر ایشیائے صرف کی قیمتوں پر اثر انداز ہونے والے جغرافیائی تناؤ جیسے خطرات تھے۔

سال کے دوران حکومت پاکستان نے اسلامی مالیاتی ذرائع سے 2,178 بلین روپے حاصل کیے، جو سالانہ ہدف 2,291 بلین روپے سے قدرے کم رہے۔ مجموعی شرکت 6,722 بلین روپے تک پہنچ گئی، جو سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی ظاہر کرتی ہے، بالخصوص متغیر شرح والے اجارہ صکوک میں۔ مارکیٹ کارجان واضح طور پر متغیر اجارہ کی جانب رہا، جس کا ثبوت 10 سالہ، 5 سالہ، اور 3 سالہ مدت کے لیے بالترتیب 7.69، 3.66، اور 3.51 گنا کی بلند بولی۔ بالمقابل کوریج شرحیں ہیں۔ حاصل کردہ مجموعی رقم میں سے 746 بلین روپے 10 سالہ متغیر اجارہ صکوک سے حاصل کیے گئے، جبکہ 216 بلین اور 312 بلین روپے بالترتیب 3 سالہ اور 5 سالہ متغیر اجارہ صکوک سے حاصل کیے گئے۔

مالی سال 2025 کے دوران فیکسڈ ریٹ اجارہ صکوک کی نیلامیوں نے بھی سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی حاصل کی، جہاں مجموعی بولیاں 2,819 بلین روپے تک پہنچ گئیں۔ 5 سالہ اور 1 سالہ ڈسکاؤنڈڈ اجارہ صکوک نمایاں رہے، جن کے بولی۔ بالمقابل کوریج تناسب بالترتیب 2.48 اور 2.04 گنا ریکارڈ کیے گئے۔ اس مضبوط طلب کے باوجود حکومت نے محتاط اور منتخب اجراء کی حکمت عملی اپنائی، اور 760 بلین روپے کے ہدف کے مقابلے میں 396 بلین روپے جمع کیے۔ منظور شدہ رقوم میں 3 سالہ صکوک کے لیے 157 بلین روپے، 5 سالہ کے لیے 222 بلین روپے، اور 10 سالہ مدت کے لیے 10 بلین روپے شامل تھے۔ اس کے علاوہ، 1 سالہ ڈسکاؤنڈڈ اجارہ صکوک کے ذریعے 508 بلین روپے کی نمایاں رقم حاصل کی گئی، جو قلیل مدتی سرمایہ کاری میں مسلسل دلچسپی ظاہر کرتی ہے۔

اسی سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے اپنا پہلا گرین صکوک جاری کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا، جسے غیر معمولی دلچسپی حاصل ہوئی اور بولی۔ کوریج تناسب 5.39 گنا ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت نے 30 بلین روپے کے ابتدائی ہدف کے مقابلے میں کامیابی سے 32 بلین روپے جمع کیے، جو مخصوص شعبوں کے لیے شریعت کے مطابق مالیاتی آلات میں مارکیٹ کی مضبوط دلچسپی کا مظہر ہے۔

مندرجہ ذیل جدول مالی سال 2025 کے دوران مقررہ آمدنی والے مالیاتی آلات کی منافع کی شرحوں اور پاکستانی روپیہ بمقابلہ امریکی ڈالر میں ہونے والی تبدیلیوں کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔

Description	30-Jun-25	31-Mar-25	Change (bps)	30-Jun-24	Change (bps)
KIBOR 3 Months	11.15%	12.18%	-103	20.24%	-909
KIBOR 6 Months	11.13%	12.13%	-100	20.14%	-901
KIBOR 12 Months	11.31%	12.34%	-103	19.22%	-791
T-Bill 1 Month	11.21%	12.20%	-99	20.46%	-925
T-Bill 3 Months	11.01%	12.13%	-112	19.97%	-896
T-Bill 6 Months	10.89%	12.04%	-115	19.91%	-902
T-Bill 12 Months	10.85%	11.98%	-113	18.68%	-783
PIB 3 Year	11.15%	11.97%	-82	16.50%	-535
PIB 5 Year	11.40%	12.46%	-106	15.37%	-397
PIB 10 Year	12.30%	12.31%	-1	14.09%	-179
US\$ Inter Bank (PKR)	283.76	280.16	3.60	278.34	5.42
US\$ Open Market (PKR)	286.14	281.85	4.29	280.07	6.07

مندرجہ ذیل جدول اجارہ/سکوک کی تفصیلات کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔

فلوٹنگ ریٹ اجارہ:

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval			Change
							30-Jun-24	30-Jun-25	YTM	
XXIII	Floater - 5 years	11.2048%	0.08	186.91	29-Jul-20	29-Jul-25	99.96	100.01	10.58%	0.05
XXIV	Floater - 5 years	11.0128%	0.44	227.26	9-Dec-20	9-Dec-25	100.75	100.32	10.19%	-0.43
XXV	Floater - 5 years	11.8230%	1.27	190.53	6-Oct-21	6-Oct-26	100.47	101.08	10.46%	0.61
XXVI	Floater - 5 years	11.8473%	1.33	584.86	29-Oct-21	29-Oct-26	101.03	101.00	10.54%	-0.03
XXVII	Floater - 5 years	11.9230%	1.82	563.32	27-Apr-22	27-Apr-27	100.69	101.40	10.56%	0.71
XXVIII	Floater - 5 years	11.9473%	2.32	243.85	26-Oct-22	26-Oct-27	100.58	101.50	10.78%	0.92
XXIX	Floater - 3 years	11.6401%	0.52	105.96	5-Jan-23	5-Jan-26	99.21	100.25	11.31%	1.04
XXXV	Floater - 5 years	12.8401%	2.99	131.98	26-Jun-23	26-Jun-28	103.03	104.16	11.75%	1.13
XXXVII	Floater - 3 years	12.7401%	1.03	27.40	12-Jul-23	12-Jul-26	100.21	101.20	11.10%	0.99
XLII	Floater - 3 years	12.6092%	1.43	81.69	4-Dec-23	4-Dec-26	99.82	100.62	10.61%	0.80
XLIII	Floater - 5 years	12.7192%	3.43	99.97	4-Dec-23	4-Dec-28	100.16	101.38	10.60%	1.22
XLIV	Floater - 3 years	11.5548%	1.57	16.17	24-Jan-24	24-Jan-27	100.50	101.39	10.67%	0.89
XLV	Floater - 5 years	11.6848%	3.57	259.30	24-Jan-24	24-Jan-29	100.20	102.79	10.88%	2.59
XLVI	Floater - 3 years	13.3413%	1.86	0.65	10-May-24	10-May-27	100.00	101.42	10.76%	1.42
XLVII	Floater - 5 years	13.6213%	3.86	74.62	10-May-24	10-May-29	100.00	103.05	10.83%	3.05
XLVIII	Floater - 3 years	10.5974%	1.99	38.82	28-Jun-24	28-Jun-27	100.00	100.97	10.96%	0.97
XLIX	Floater - 5 years	10.5874%	4.00	55.05	28-Jun-24	28-Jun-29	100.00	101.06	10.88%	1.06
XLX	Floater - 3 years	11.3570%	2.22	31.42	18-Sep-24	18-Sep-27	0.00	100.81	11.00%	N/A
XLXI	Floater - 5 years	11.5270%	4.22	41.89	18-Sep-24	18-Sep-29	0.00	101.83	10.52%	N/A
XLXII	Floater - 10 years	11.6570%	9.22	41.89	18-Sep-24	18-Sep-34	0.00	102.15	10.95%	N/A
XLXIII	Floater - 3 years	11.3570%	2.31	147.01	21-Oct-24	21-Oct-27	0.00	100.83	11.03%	N/A
XLXIV	Floater - 5 years	11.5270%	4.31	128.16	21-Oct-24	21-Oct-29	0.00	101.85	10.59%	N/A
XLXV	Floater - 10 years	11.8973%	9.32	342.91	21-Oct-24	21-Oct-34	0.00	102.03	11.03%	N/A
XLXIII	Floater - 3 years	11.1901%	2.53	1.45	9-Jan-25	9-Jan-28	0.00	100.78	10.60%	N/A
XLXIV	Floater - 5 years	11.2301%	4.53	21.53	9-Jan-25	9-Jan-30	0.00	99.45	10.78%	N/A
XLXV	Floater - 10 years	11.6301%	9.53	64.71	9-Jan-25	9-Jan-35	0.00	99.42	11.16%	N/A
XLXVI	Floater - 10 years	11.5470%	9.69	57.28	7-Mar-25	7-Mar-35	0.00	102.95	11.16%	N/A
XLXVII	Floater - 5 years	11.4273%	4.84	10.32	2-May-25	2-May-30	0.00	100.17	10.91%	N/A
XLXVIII	Floater - 10 years	11.6973%	9.84	52.67	2-May-25	2-May-35	0.00	100.55	10.77%	N/A
XLXVII	Floater - 5 years	10.5728%	4.92	35.38	30-May-25	30-May-30	0.00	100.02	10.91%	N/A
XLXVIII	Floater - 10 years	11.1128%	9.92	40.59	30-May-25	31-May-35	0.00	100.06	10.77%	N/A
PES I	Floater - 10 years	12.6200%	3.67	200.00	1-Mar-19	1-Mar-29	106.80	104.42	11.04%	-2.38
PES II	Floater - 10 years	11.2900%	4.89	199.97	21-May-20	21-May-30	100.12	102.52	10.95%	2.40
		11.80%		4,305.51						

Source: SBP/PSX and MUFAP

Ijarah	Type	Coupon	Remaining Life	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Reval		Change
							30-Jun-24	30-Jun-25	
XXIII	Fixed - 5 years	8.37%	0.08	44.59	29-Jul-20	29-Jul-25	86.43	99.68	13.25
XXIV	Fixed - 5 years	9.45%	0.56	8.25	20-Jan-21	20-Jan-26	84.42	98.67	14.25
XXV	Fixed - 5 years	9.70%	1.27	12.73	6-Oct-21	6-Oct-26	83.92	97.96	14.04
XXVI	Fixed - 5 years	11.40%	1.46	323.83	15-Dec-21	15-Dec-26	87.58	101.23	13.65
XXVII	Fixed - 5 years	12.49%	1.82	60.89	27-Apr-22	27-Apr-27	88.58	102.51	13.93
XXVIII	Fixed - 5 years	12.49%	2.38	0.25	16-Nov-22	16-Nov-27	88.33	102.37	14.04
XXXII	Fixed - 3 Years	18.24%	0.80	25.01	17-Apr-23	17-Apr-26	100.41	106.67	6.26
XXXV	Fixed - 3 Years	18.49%	0.99	292.22	26-Jun-23	26-Jun-26	103.51	107.71	4.20
XXXIX	Fixed - 5 Years	16.50%	3.23	0.50	20-Sep-23	20-Sep-28	101.65	112.38	10.73
XLI	Fixed - 3 Years	16.19%	1.43	34.65	4-Dec-23	4-Dec-26	100.11	107.59	7.48
XLII	Fixed - 5 Years	15.75%	3.43	52.85	4-Dec-23	4-Dec-28	101.33	113.33	12.00
XLV	Fixed - 3 Years	15.49%	1.57	1.31	24-Jan-24	24-Jan-27	100.00	107.25	7.25
XLVI	Fixed - 5 Years	15.49%	3.57	25.12	24-Jan-24	24-Jan-29	100.00	112.67	12.67
LIII	Fixed - 3 Years	15.85%	1.86	0.08	10-May-24	10-May-27	100.00	108.25	8.25
LIV	Fixed - 5 Years	15.48%	3.86	45.13	10-May-24	10-May-29	100.00	113.80	13.80
LVII	Fixed - 3 Years	15.80%	1.99	20.91	28-Jun-24	28-Jun-27	100.00	108.87	8.87
LVIII	Fixed - 5 Years	15.10%	4.00	41.55	28-Jun-24	28-Jun-29	100.00	113.20	13.20
LIX	Fixed - 1 Years	17.22%	0.07	18.23	26-Jul-24	25-Jul-25	0.00	99.39	N/A
LX	Fixed - 1 Year	15.99%	0.13	34.47	16-Aug-24	15-Aug-25	0.00	98.84	N/A
LXI	Fixed - 1 Year	15.00%	0.22	42.24	18-Sep-24	17-Sep-25	0.00	97.86	N/A
LXII	Fixed - 3 Year	13.89%	2.22	37.80	18-Sep-24	18-Sep-27	0.00	106.00	N/A
LXIII	Fixed - 5 Year	13.85%	4.22	21.20	18-Sep-24	18-Sep-29	0.00	108.45	N/A
LXIV	Fixed - 10 Year	13.04%	9.22	0.53	18-Sep-24	18-Sep-34	0.00	104.68	N/A
LXV	Fixed - 1 Year	11.75%	0.31	65.62	21-Oct-24	20-Oct-25	0.00	97.14	N/A
LXVI	Fixed - 3 Year	12.00%	2.31	17.26	21-Oct-24	21-Oct-27	0.00	102.93	N/A
LXVII	Fixed - 5 Year	12.53%	4.31	67.33	21-Oct-24	21-Oct-29	0.00	105.94	N/A
LXVIII	Fixed - 10 Year	12.74%	9.32	6.49	21-Oct-24	21-Oct-34	0.00	105.45	N/A
LXIX	Fixed - 1 Year	11.00%	0.35	116.34	7-Nov-24	6-Nov-25	0.00	96.69	N/A
LXX	Fixed - 1 Year	11.00%	0.43	48.87	4-Dec-24	3-Dec-25	0.00	95.81	N/A
LXXI	Fixed - 1 Year	10.42%	0.53	37.72	9-Jan-25	8-Jan-26	0.00	95.16	N/A
LXXII	Fixed - 3 Year	11.50%	2.53	0.71	9-Jan-25	9-Jan-28	0.00	99.45	N/A
LXXIII	Fixed - 5 Year	11.99%	4.53	11.79	9-Jan-25	9-Jan-30	0.00	99.45	N/A
LXXIV	Fixed - 10 Year	11.70%	9.53	0.26	9-Jan-25	9-Jan-35	0.00	99.42	N/A
LXXV	Fixed - 1 Year	10.25%	0.60	4.15	4-Feb-25	3-Feb-26	0.00	94.16	N/A
LXXVI	Fixed - 1 Year	11.00%	0.68	6.36	7-Mar-25	6-Mar-26	0.00	93.19	N/A
LXXVII	Fixed - 3 Year	11.49%	2.69	12.00	7-Mar-25	7-Mar-28	0.00	101.13	N/A
LXXVIII	Fixed - 5 Year	11.98%	4.69	15.90	7-Mar-25	7-Mar-30	0.00	101.25	N/A
LXXIX	Fixed - 1 Year	10.89%	0.83	32.68	2-May-25	30-Apr-26	0.00	91.78	N/A
LXXX	Fixed - 3 Year	11.49%	2.84	9.56	2-May-25	2-May-28	0.00	101.23	N/A
LXXX	Fixed - 1 Year	10.25%	0.84	40.67	2-May-25	2-May-26	0.00	91.62	N/A
LXXX	Fixed - 3 Year	10.85%	2.92	27.28	30-May-25	30-May-28	0.00	100.00	N/A
LXXX	Fixed - 5 Year	10.87%	4.92	6.91	30-May-25	30-May-30	0.00	100.00	N/A
LXXX	Fixed - 10 Year	12.19%	9.92	10.00	30-May-25	30-May-35	0.00	31.67	N/A
1,634.47									

بازار حصص کا جائزہ

مالی سال 2025 میں پاکستان کی ایکویٹی مارکیٹ نے مسلسل دوسرے سال شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کے ایس ای-100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 125,627 پوائنٹس پر بند ہوا، جس نے 60.15 فیصد کا متاثر کن منافع دیا۔ جبکہ مالی سال 2024 میں 89.24 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسی طرح، کے ایم آئی-30 انڈیکس 46.24 فیصد اضافے کے ساتھ 184,887 پوائنٹس پر بند ہوا، جو گزشتہ سال کے 78.70 فیصد منافع کے بعد مزید بہتری کی علامت ہے۔ یہ مضبوط کارکردگی مسلسل معاشی بہتری اور ایکویٹی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کے نمایاں اضافے کی بدولت ممکن ہوئی، جس نے مارکیٹ کی مجموعی ریٹینگ کو تقویت دی۔ مالی سال کے آغاز پر پاکستان کی ایکویٹی مارکیٹ کا فارورڈ P/E ملٹیپل 4 تھا، جو سال کے اختتام پر 6.3 تک پہنچ گیا۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد اور آمدنی کے نمایاں ہونے میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔

ستمبر 2024 میں آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی اور اپریل 2024 میں مختصر مدتی SBA پروگرام کے بروقت اختتام کے بعد شروع ہونے والے نئے RSF پروگرام نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو تقویت دی، کیونکہ ان اقدامات نے اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر تین سال کی بلند ترین سطح تک پہنچانے میں مدد دی۔

مالی سال 2025 کے دوران شرح سود میں نمایاں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ میں مسلسل سرپلس، اور مالیاتی نظم و ضبط کی بحالی نے بھی مثبت رجحانات کو تقویت دی۔ مالیاتی نرمی نے کارپوریٹ منافع میں اضافہ کیا، کیونکہ مالیاتی اخراجات کم ہوئے اور طلب میں اضافہ ہوا۔ اس نرمی نے سرمایہ کو دیگر اثاثہ جات سے منتقل کر کے ایکویٹی مارکیٹ کی جانب راغب کیا، بالخصوص فیکٹری انکم اور ریئل سٹیٹ سے۔

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یومیہ اوسط تجارتی حجم 37 فیصد اضافے کے ساتھ 633 ملین شیئرز تک پہنچ گیا، جبکہ یومیہ اوسط تجارتی مالیت 83 فیصد اضافے کے ساتھ 101 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ سرگرمی زیادہ تر بڑے سرمایہ والے اسٹاکس میں مرکوز رہی، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مارکیٹ کی بنیادی مضبوطی و پائیداری ظاہر کرتی ہے۔

مارکیٹ نے پورے سال بھر غیر معمولی استحکام کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر بیرونی محاذ پر، متعدد جغرافیائی اور علاقائی چیلنجوں نے سرمایہ کاروں کے جذبات عارضی طور پر متاثر کیے۔ مئی 2025 کے اوائل میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد حملے میں پاکستان پر ملوث ہونے کا الزام لگایا اور فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کے ایس ای-100 انڈیکس میں ایک ہی دن میں 6,482 پوائنٹس کی تاریخی کمی واقع ہوئی۔ جواب تک کی سب سے بڑی کمی تھی۔ تاہم، امریکہ کی ٹاشی سے ہونے والے جنگ بندی معاہدے نے فوری طور پر استحکام بحال کیا، اور انڈیکس نے دوبارہ تیزی سے اضافہ کرتے ہوئے مالی سال کے اختتام تک نئی بلند سطحیں عبور کیں۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی، اسے بھی امریکی مداخلت سے محدود کر دیا گیا۔ ایران-اسرائیل تنازع کے 12 دنوں کے دوران عالمی تیل کی قیمتیں 20 فیصد بڑھ کر تقریباً 80 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئیں، جو بعد ازاں جنگ بندی کے بعد کم ہو گئیں۔

عالمی تجارتی رجحانات نے بھی مارکیٹ کے جذبات پر اثر ڈالا۔ 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیئرف کے اعلان نے ایشیائی مارکیٹوں میں دباؤ پیدا کیا، تاہم پاکستان کی ایکویٹی مارکیٹ نے اندرونی معاشی بنیادوں کی بہتری اور طویل مدتی ترقی کے امکانات پر سرمایہ کاروں کے مسلسل اعتماد کی بدولت نمایاں مزاحمت دکھائی۔

حصص کا بہاؤ

مالی سال 2025 میں ایکویٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے بہاؤ میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، بالخصوص میوچل فنڈز اور غیر ملکی اداروں کے درمیان۔ میوچل فنڈز نمایاں خالص خریدار رہے، جنہوں نے مجموعی طور پر 232 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ان کی خریداری مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی تھی، جن میں تقریباً نصف سرمایہ کاری کمرشل بینکوں، فریٹلائزر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، اور آئل مارکیٹنگ سیکٹرز میں کی گئی۔ مقامی خریداری کو کارپوریٹس اور انفرادی سرمایہ کاروں نے مزید تقویت دی، جنہوں نے مشترکہ طور پر 162 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس کے برعکس، غیر ملکی ادارے بنیادی فروخت کنندگان رہے، جنہوں نے مختلف شعبوں میں مجموعی طور پر 329 ملین امریکی ڈالر کے اسٹاکس فروخت کیے۔ سب سے زیادہ فروخت کمرشل بینکنگ سیکٹرز میں ہوئی، جہاں 127 ملین امریکی ڈالر کی خالص فروخت ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں 76 ملین اور فریٹلائزر سیکٹرز میں 68 ملین امریکی ڈالر کی فروخت ہوئی۔

انڈیکس میں نمایاں کردار ادا کرنے والے شعبے :

مالی سال 2025 کے دوران KMI-30 انڈیکس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اہم شعبوں میں سیمنٹ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، اور فریٹلائزر شامل رہے۔ انڈیکس میں سب سے زیادہ مثبت کردار ادا کرنے والے اسٹاکس درج ذیل رہے:


Major positive contributors to the Index	Contribution to KMI30 Index (Points)	Total return
Mari Energies Ltd	9,862	116.20%
Lucky Cement Ltd	8,470	99.29%
Meezan Bank Ltd	5,933	55.08%
Pakistan State Oil Company Ltd	5,664	138.67%

دوسری جانب سرمایہ کاری کمپنیوں، بجلی کی پیداوار و تقسیم، آٹوموبائل اسمبلرز، اور کیمیکل شعبے نے نسبتاً کمزور کارکردگی دکھائی۔ مالی سال 2025 کے دوران KMI-30 انڈیکس میں منفی کردار ادا کرنے والے اہم اسٹاکس درج ذیل رہے:

Major negative contributors to the Index	Contribution to KMI30 Index (Points)	Total return
Engro Holdings Ltd	-1,786*	-23.27%*
The Hub Power Company Ltd	-1,618	-7.10%
Millat Tractors Ltd	-338	-5.92%
Engro Polymer & Chemicals Ltd	-334	-29.76%

* یہ کارکردگی جنوری 2025 میں DAWH کے ENGROH میں انضمام کے بعد چھ ماہ کی مدت کی عکاسی کرتی ہے۔

درج ذیل گراف مالی سال 2025 کے دوران KMI-30 انڈیکس کی حرکت اور اس کے کلیدی محرکات کو ظاہر کرتا ہے۔



میوچل فنڈ انڈسٹری کا جائزہ


مالی سال 2025 کے دوران میوچل فنڈ انڈسٹری کے اثاثہ جات (AUMs) میں 44 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 3,809 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ شریعت کے مطابق اثاثہ جات میں 35 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,778 ارب روپے تک جا پہنچے۔ تاہم، مجموعی میوچل فنڈ انڈسٹری میں شریعت کے مطابق فنڈز کا مارکیٹ شیئر 50 فیصد سے کم ہو کر 47 فیصد رہ گیا۔

المیزان کا مجموعی میوچل فنڈ انڈسٹری میں مارکیٹ شیئر 16 فیصد رہا، جبکہ شریعت کے مطابق فنڈز میں اس کا حصہ 33 فیصد رہا جو جون 2025 کے اختتام پر انڈسٹری میں سب سے زیادہ تھا۔ پنشن فنڈ کیٹیگری میں میزان تحفظ پنشن فنڈز کا مارکیٹ شیئر 31 فیصد رہا، جبکہ شریعت کے مطابق پنشن فنڈز میں اس کا حصہ 48 فیصد رہا۔ یہ بھی انڈسٹری میں سب سے زیادہ رہا۔


	FY24	FY25	Change
	(Rs. In Billion)		(%)
<u>Sovereign, Money Market and Income Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	1,173	1,498	27.7
Conventional Funds	1,151	1,707	48.3
Total Funds	2,324	3,205	37.9
<u>Equity Funds (Including Index Tracker Funds)</u>			
Shariah Compliant Funds	70	148	110.9
Conventional Funds	143	271	89.9
Total Funds	213	419	96.8
<u>Capital Protected, balanced, and asset allocation Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	26	54	108.9
Conventional Funds	13	16	25.4
Total Funds	39	70	81.8
<u>Commodity Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	2	5	212.5
Total Funds	2	5	212.5
<u>Voluntary Pension Funds</u>			
Shariah Compliant Funds	49	72	46.4
Conventional Funds	26	37	42.8
Total Funds	75	108	45.2
Total Industry	2,653	3,809	43.6

انڈسٹری میں المیزان کا مارکیٹ شیئر

Market Share in Overall Industry




Market Share in Islamic Industry




انڈسٹری میں المیزان تحفظ پنشن فنڈ کا مارکیٹ شیئر

Market Share in Overall Industry



Market Share in Islamic Industry



یہ جدول ہمارے زیر انتظام فنڈز کی مالی سال 2025 میں کارکردگی کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔

Funds	Type	Net Assets Rs. in millions	Growth in Net Assets for FY25 (%)	Returns for FY25 (%)	Benchmark for FY25 (%)	
Money Market/Fixed Income Funds						
Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF)	Money Market	66,479	-42	13.62	9.93	
Meezan Cash Fund (MCF)	Money Market	225,271	213	13.34	9.93	
Meezan Daily Income Fund (MDIP-1)	Income	43,242	-70	13.38	10.37	
Meezan Daily Income Fund – MMMP	Income	2,282	-74	11.15	10.37	
Meezan Sehl Account Plan (MDIF-SEHL)	Income	147	63	10.34	10.37	
Meezan Munafa Plan-I (MDIF-MMP-I)	Income	50,033	1,724	12.95	10.37	
Meezan Super Saver Plan (MDIF-SSP)	Income	7,216	692	12.75	10.37	
Meezan Sovereign Fund (MSF)	Income	28,663	-51	12.00	13.16	
Meezan Islamic Income Fund (MIIF)	Income	21,553	35	12.54	10.37	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XIV*	Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022	22	-	11.03	11.74	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XX*		1,452	-	10.56	10.40	
MFTF-Meezan Paidaar Munafa Plan-XXI*		39,219	-	-	-	
Equity Funds						
Meezan Islamic Fund (MIF)	Equity	43,811	90	59.22	46.24	
Al Meezan Mutual Fund (AMMF)	Equity	12,926	165	64.70	46.24	
KSE Meezan Index Fund (KMIF)	Equity	4,702	18	43.52	46.24	
Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF)	Equity	373	-3	65.72	46.24	
Meezan Energy Fund (MEF)	Equity	3,324	193	53.99	46.24	
Pension Fund Scheme						
Meezan Tahaffuz Pension Fund	Pension Fund Scheme					
Equity sub Fund		8,664	64	65.72		
Debt sub Fund		9,615	40	14.38		
Money Market sub Fund		14,303	19	15.43		
Gold Sub Fund		977	108	39.51		
Meezan GOKP Pension Fund						
Money Market sub Fund	GOKP Pension Fund	446	306	15.77		
Balanced Fund						
Meezan Balanced Fund (MBF)	Balanced	3,394	77	36.60	28.40	
Asset Allocation Fund						
Meezan Asset Allocation Fund (MAAF)	Asset Allocation	593	90	58.21	39.97	
Meezan Dynamic Asset Allocation Fund (MDYP-MDAAF)*		293	-	45.92	42.53	
Commodity Fund						
Meezan Gold Fund (MGF)	Commodity	5,372	213	42.72	37.23	
Exchange Traded						
Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MZNP-ETF)	Exchange Traded	295	204	31.76	33.38	
Fund of Funds						
Meezan Financial Planning Fund of Fund						
Aggressive	Fund of Fund	196	123	47.76	38.23	
Moderate		150	118	36.27	30.86	
Conservative		93	91	23.79	22.11	
Very Conservative Allocation Plan (MPFP-V. Con)		15	1,342	10.62	11.76	
MAAP-I		135	45	46.47	33.85	
Meezan Strategic Allocation Fund						
MSAP-I		110	18	50.05	33.80	
MSAP-II		49	17	49.59	31.63	
MSAP-III		117	17	47.14	32.87	
MSAP-IV		77	15	45.51	32.88	
MSAP-V	44	6	44.11	32.07		

*Launched MPMP-XIV (Feb 03`25), MPMP-XX (May 29`25), MPMP-XXI (June 25`25), MDYP-MDAAF (Aug 28`24)

کارکردگی کا جائزہ (فنڈز)

میزان روزانہ آمدنی فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان روزانہ آمدنی فنڈ (MRAF) کے خالص اثاثہ جات 66,479 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 114,606 ملین روپے تھے۔ یعنی 42 فیصد کمی واقع ہوئی۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.00 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 13.62 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیئج مارک سالانہ منافع 9.93 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 5 فیصد حصہ اسلامی بینکوں اور DFIs میں پلیمینٹ، 28 فیصد حکومت پاکستان اجارہ صکو، 17 فیصد بیج معجل پلیمینٹ، اور 11 فیصد صکو و کمرشل پیپرز میں تھا۔ مجموعی طور پر 37 فیصد اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں رکھے گئے، جبکہ 2 فیصد دیگر میں تھے۔

میزان کیش فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان کیش فنڈ (MCF) کے خالص اثاثہ جات 225,271 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 71,892 ملین روپے تھے۔ یعنی 213 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 51.4276 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 13.34 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیئج مارک سالانہ منافع 9.93 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 27 فیصد حصہ بیج معجل پلیمینٹ، 16 فیصد بینکوں اور DFIs میں پلیمینٹ، 17 فیصد حکومت پاکستان اجارہ صکو، 6 فیصد صکو و کمرشل پیپرز میں تھا۔ مجموعی طور پر 29 فیصد اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں رکھے گئے، جبکہ 5 فیصد دیگر میں تھے۔

میزان اسلامک انکم فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان اسلامک انکم فنڈ (MIIF) کے خالص اثاثہ جات 21,553 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 15,980 ملین روپے تھے۔ یعنی 35 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 51.7785 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 12.54 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیئج مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 43 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ / گارنٹی شدہ صکو، 11 فیصد صکو، 12 فیصد بینکوں اور مضاربہ جات میں پلیمینٹ، 30 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 4 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان سوورن فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان سوورن فنڈ (MSF) کے خالص اثاثہ جات 28,663 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 58,055 ملین روپے تھے یعنی 51 فیصد کمی۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 52.2741 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 12.00 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیئج مارک سالانہ منافع 13.16 فیصد رہا۔ اس مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 75 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ / گارنٹی شدہ صکو، 19 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 6 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ

میزان ڈیلی انکم فنڈ MDIP-I

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 43,242 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 146,252 ملین روپے تھے۔ یعنی 70 فیصد کمی۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.00 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 13.38 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیئج مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 28 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ صکو، 2 فیصد صکو و کمرشل پیپرز، 18 فیصد بیج معجل پلیمینٹ، 6 فیصد بینکوں، نان بینکنگ فنانشل کمپنیز اور مضاربہ جات میں پلیمینٹ، 44 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 2 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان ڈیلی انکم فنڈ (میزان ماہانہ منافع پلان)

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 2,282 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 8,656 ملین روپے تھے۔ یعنی 74 فیصد کمی۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.00 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 11.15 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، فنڈ کا 33 فیصد حصہ بینکوں اور DFIs میں پلیسمنٹ، 66 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 1 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان ڈیلی اکم فنڈ (میزان منافع پلان I)

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 50,033 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 2,742 ملین روپے تھے۔ یعنی 1724 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.3779 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 12.95 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، پلان کا 3 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ صکوک، 7 فیصد صکوک، 27 فیصد نان بینکنگ فنانشل کمپنیز اور مضاربہ جات میں پلیسمنٹ، 57 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 6 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان سہل اکاؤنٹ پلان – MDIF-SEHL

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 147 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 90 ملین روپے تھے۔ یعنی 63 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.4811 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 10.34 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، 99 فیصد خالص اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں رکھے گئے، جبکہ 1 فیصد دیگر میں تھے۔

میزان سپر سیور پلان – MDIF-SSP

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 7,216 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 912 ملین روپے تھے۔ یعنی 692 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.3665 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 12.75 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.37 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، پلان کا 17 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ صکوک، 81 فیصد اسلامی بینکوں یا ان کی اسلامی ونڈوز میں، اور 2 فیصد دیگر میں تھا۔

میزان فکسڈ ٹرم فنڈ

میزان پائیدار منافع پلان – XIV

میزان پائیدار منافع پلان XIV کا آغاز 3 فروری 2025 کو ہوا۔ مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 22 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.0724 روپے رہی۔ رپورٹنگ مدت کے دوران، پلان نے 11.03 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 11.74 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، پلان کا 9 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ صکوک اور 91 فیصد اسلامی بینکوں اور DFIs میں پلیسمنٹ پر مشتمل تھا۔

میزان پائیدار منافع پلان – XX

میزان پائیدار منافع پلان XX کا آغاز 29 مئی 2025 کو ہوا۔ مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 1,452 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 50.1770 روپے رہی۔ رپورٹنگ مدت کے دوران، پلان نے 10.56 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک سالانہ منافع 10.40 فیصد رہا۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، پلان کا 91 فیصد حصہ حکومت پاکستان اجارہ صکوک اور 9 فیصد بینکوں اور DFIs پلیسمنٹ پر مشتمل تھا۔

میزان پائیدار منافع پلان – XXI

میزان پائیدار منافع پلان XXI کا آغاز 25 جون 2025 کو ہوا، اور سبسکرپشن کا دورانیہ 25 جون 2025 سے 3 جولائی 2025 تک رہا۔ 30 جون 2025 تک موصول شدہ سبسکرپشن 39,219 ملین روپے رہی۔ رپورٹنگ مدت کے اختتام پر، پلان کے تمام اثاثہ جات (100 فیصد) اسلامی بینکوں میں پلیسمنٹ پر مشتمل تھے۔

میزان اسلامک فنڈ

30 جون 2025 کو میزان اسلامک فنڈ کے خالص اثاثہ جات 43,811 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کے 23,095 ملین روپے کے مقابلے میں 90 فیصد

اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 129.0058 روپے رہی۔ سال بھر میں فنڈ نے 59.22 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ KSE میزان انڈیکس (KMI-30) کا بیچ مارک منافع 46.24 فیصد رہا۔

المیزان میوچل فنڈ

30 جون 2025 کو المیزان میوچل فنڈ کے خالص اثاثہ جات 12,926 ملین روپے تھے، جو 30 جون 2024 کے 4,874 ملین روپے کے مقابلے میں 165 فیصد اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 39.8818 روپے رہی۔ سال بھر میں فنڈ نے 64.70 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ KSE میزان انڈیکس (KMI-30) کا بیچ مارک منافع 46.24 فیصد رہا۔

KSE میزان انڈیکس فنڈ

30 جون 2025 کو KSE میزان انڈیکس فنڈ کے خالص اثاثہ جات 4,702 ملین روپے تھے، جو 30 جون 2024 کے 3,973 ملین روپے کے مقابلے میں 18 فیصد اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 139.6180 روپے رہی۔ سال بھر میں فنڈ نے 43.52 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ KSE میزان انڈیکس (KMI-30) کا بیچ مارک منافع 46.24 فیصد رہا۔

میزان ڈیڈیکمٹڈ ایکویٹی فنڈ

30 جون 2025 کو میزان ڈیڈیکمٹڈ ایکویٹی فنڈ کے خالص اثاثہ جات 373 ملین روپے تھے، جو 30 جون 2024 کے 385 ملین روپے کے مقابلے میں 3 فیصد کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 76.2315 روپے رہی۔ سال بھر میں فنڈ نے 65.72 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ KSE میزان انڈیکس (KMI-30) کا بیچ مارک منافع 46.24 فیصد رہا۔

میزان انرجی فنڈ

30 جون 2025 کو میزان انرجی فنڈ کے خالص اثاثہ جات 3,324 ملین روپے تھے، جو 30 جون 2024 کے 1,136 ملین روپے کے مقابلے میں 193 فیصد اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 49.4884 روپے رہی۔ سال بھر میں فنڈ نے 53.99 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ KSE میزان انڈیکس (KMI-30) کا بیچ مارک منافع 46.24 فیصد رہا۔

میزان تحفظ پنشن فنڈ

MTPF چارڈزلی فنڈز پر مشتمل ہے: ایکویٹی سب فنڈ، ڈیٹ سب فنڈ، منی مارکیٹ سب فنڈ اور گولڈ سب فنڈ۔ مورخہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، ایکویٹی سب فنڈ نے 65.72 فیصد منافع فراہم کیا جبکہ گولڈ سب فنڈ نے 39.51 فیصد منافع دیا۔ ڈیٹ اور منی مارکیٹ سب فنڈز نے بالترتیب 14.38 فیصد اور 15.43 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا۔ ہر سب فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ درج ذیل ہے:

ایکویٹی سب فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو اس سب فنڈ کے خالص اثاثہ جات 8,664 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 5,267 ملین روپے تھے — یعنی 64 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 1,427.7175 روپے رہی، جبکہ 30 جون 2024 کو یہ 861.5410 روپے تھی۔

ڈیٹ سب فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو اس سب فنڈ کے خالص اثاثہ جات 9,615 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 6,846 ملین روپے تھے — یعنی 40 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 481.6859 روپے رہی، جبکہ 30 جون 2024 کو یہ 421.1214 روپے تھی۔

منی مارکیٹ سب فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو اس سب فنڈ کے خالص اثاثہ جات 14,303 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 12,046 ملین روپے تھے — یعنی 19 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو نی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 478.6617 روپے رہی، جبکہ 30 جون 2024 کو یہ 414.6721 روپے تھی۔

گولڈ سب فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو اس سب فنڈ کے خالص اثاثہ جات 977 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 471 ملین روپے تھے—یعنی 108 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 430.1093 روپے رہی، جبکہ 30 جون 2024 کو یہ 308.3108 روپے تھی۔

میزان GOKP پشن فنڈ

MGOKPPF ایک ذیلی فنڈ پر مشتمل ہے، یعنی منی مارکیٹ سب فنڈ۔ مورخہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، منی مارکیٹ سب فنڈ نے 15.77 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا۔ 30 جون 2025 کو اس سب فنڈ کے خالص اثاثہ جات 446 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 110 ملین روپے تھے—یعنی 306 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 129.6220 روپے رہی، جبکہ 30 جون 2024 کو یہ 111.9656 روپے تھی۔

میزان سیلینڈ فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان سیلینڈ فنڈ (MBF) کے خالص اثاثہ جات 3,394 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 1,913 ملین روپے تھے—یعنی 77 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 23.8078 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 36.60 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک منافع 28.40 فیصد رہا۔

میزان ایسیٹ ایلو کیشن فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان ایسیٹ ایلو کیشن فنڈ (MAAF) کے خالص اثاثہ جات 593 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 312 ملین روپے تھے—یعنی 90 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 95.0216 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 58.21 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک منافع 39.97 فیصد رہا۔

میزان ڈائنامک ایسیٹ ایلو کیشن فنڈ

میزان ڈیویڈنڈ پیبلڈ پلان (MDYP)، جو میزان ڈائنامک ایسیٹ ایلو کیشن فنڈ کے تحت ہے، کا آغاز 28 اگست 2024 کو ہوا۔ مورخہ 30 جون 2025 کو میزان ڈیویڈنڈ پیبلڈ پلان کے خالص اثاثہ جات 293 ملین روپے تھے۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 67.8166 روپے رہی۔ رپورٹنگ مدت کے دوران، پلان نے 45.92 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک منافع 42.53 فیصد رہا۔

میزان گولڈ فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان گولڈ فنڈ (MGF) کے خالص اثاثہ جات 5,372 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 1,719 ملین روپے تھے—یعنی 213 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 230.5621 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 42.72 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک منافع 37.23 فیصد رہا۔

میزان پاکستان ایکیٹیو ٹریڈ فنڈ

مورخہ 30 جون 2025 کو میزان پاکستان ایکیٹیو ٹریڈ فنڈ (MPETF) کے خالص اثاثہ جات 295 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 97 ملین روپے تھے—یعنی 204 فیصد اضافہ۔ 30 جون 2025 کو فی یونٹ خالص اثاثہ جاتی قیمت (NAV) 15.5347 روپے رہی۔ رپورٹنگ سال کے دوران، فنڈ نے 31.76 فیصد سالانہ منافع فراہم کیا، جبکہ بیچ مارک MZNPI منافع 33.38 فیصد رہا۔

میزان فنانس پلاننگ فنڈز آف فنڈز

ایگریسیو ایلوکیشن پلان

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 196 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 88 ملین روپے تھے— یعنی 123 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 47.76 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 38.23 فیصد رہا۔

ماڈریٹ ایلوکیشن پلان

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 150 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 69 ملین روپے تھے— یعنی 117 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 36.27 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 30.86 فیصد رہا۔

کنزرویٹو ایلوکیشن پلان

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 93 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 49 ملین روپے تھے— یعنی 90 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 23.79 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 22.11 فیصد رہا۔

ویری کنزرویٹو ایلوکیشن پلان

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 15 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 1 ملین روپے تھے— یعنی 1400 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 10.62 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 11.76 فیصد رہا۔

میزان ایسیٹ ایلوکیشن پلان – I

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 135 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 93 ملین روپے تھے— یعنی 45 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 46.47 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 33.85 فیصد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان – I

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 110 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 94 ملین روپے تھے— یعنی 17 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 50.05 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 33.80 فیصد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان – II

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 49 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 42 ملین روپے تھے— یعنی 17 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 49.59 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 31.63 فیصد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان – III

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 117 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 101 ملین روپے تھے— یعنی 16 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 47.14 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 32.87 فیصد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن پلان – IV

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 77 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 67 ملین روپے تھے— یعنی 15 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 45.51 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ ہینج مارک منافع 32.88 فیصد رہا۔

میزان اسٹریٹجک ایلو کیشن پلان - V

مورخہ 30 جون 2025 کو اس پلان کے خالص اثاثہ جات 44 ملین روپے تھے، جو کہ 30 جون 2024 کو 42 ملین روپے تھے — یعنی 5 فیصد اضافہ۔ رپورٹنگ سال کے دوران، پلان نے 44.11 فیصد منافع فراہم کیا، جبکہ نیٹ مارک منافع 32.07 فیصد رہا۔

توقعات

پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے مالی سال 2025 میں 60 فیصد کا شاندار منافع فراہم کیا، جو گزشتہ تین دہائیوں میں تیسری بہترین کارکردگی ہے اور اسے دنیا کی اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی مارکیٹوں میں شامل کر دیا ہے۔ کارپوریٹ آمدنی کے سیزن کی آمد کے ساتھ، PSX کا منظر نامہ مثبت دکھائی دیتا ہے، جسے ادارہ جاتی سرمایہ کاری کے تسلسل اور اصلاحاتی اقدامات کی رفتار معاونت فراہم کر رہی ہے۔

افراط زر میں کمی، مالیاتی نظم و ضبط، مستحکم کرنسی اور بہتر بیرونی کھاتے کی بدولت شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، جس سے مالیاتی نرمی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگ میں حالیہ بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی علامت ہے۔ ساختی اصلاحات اور سازگار معاشی ماحول کے امتزاج سے ایکویٹی مارکیٹ پر توجہ مرکوز رہنے کی توقع ہے۔

حالیہ تیزی کے باوجود، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) اس وقت آئندہ متوقع آمدنی کے تناسب سے صرف 6.3 گنا پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو اس کے 7 سے 8 گنا کے تاریخی اوسط سے کم اور سابقہ بلند ترین سطح یعنی 10 گنا سے خاصی نیچے ہے۔ یہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ موجودہ قیمتیں محض گزشتہ مالی کارکردگی ظاہر کرتی ہیں، جبکہ معاشی اور ادارہ جاتی بنیادی اشاریوں میں بہتری کے ساتھ مستقبل میں قدر میں اضافے کی گنجائش نمایاں طور پر موجود ہے۔

تاہم، پاکستان اور امریکا کے درمیان تعلقات میں ہونے والی پیش رفت مارکیٹ کے رجحانات پر اثر انداز ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں جاری جغرافیائی سیاسی حالات پاکستان کے لیے وسیع تر معاشی اثرات کا باعث بن سکتے ہیں، خصوصاً اس تناظر میں کہ پاکستان کی معیشت تیل کی درآمدات پر انحصار رکھتی ہے — اور یہی عوامل مارکیٹ کی کارکردگی کا تعین کر سکتے ہیں۔

فلسفہ انکم کے شعبے میں، مالی سال 2026 کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی جانب سے نرم مالیاتی پالیسی اپنانے کی توقع ہے، جس کی بنیاد معاشی اشاریوں میں بہتری اور ریاستی کریڈٹ ریٹنگ میں استحکام پر ہے۔ حکومتی سیکورٹیز کی حالیہ نیلامیوں میں اس رجحان کی جھلک واضح ہے، جہاں ٹی بلز، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز (PIBs)، اور حکومت پاکستان اجارہ سلوک پر منافع کی شرح میں کمی آئی ہے۔ منافع میں یہ کمی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ مارکیٹ میں حکومت کے اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی نظم و ضبط کی کوششوں، اور اسٹیٹ بینک کی مالی و قیمتی استحکام کے عزم پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔

آڈیٹرز

نمبر شمار	فونڈ کا نام	آڈیٹرز کا نام بمطابق 30 جون، 2025	30 جون، 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی حیثیت
1	المیزان میوچل فنڈ	میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس	بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ نے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تقرری کی منظوری دی
2	KSE میزان انڈیکس فنڈ		
3	میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ		
4	میزان بیلنسڈ فنڈ		
5	میزان کیش فنڈ		
6	میزان ڈیلی اکم فنڈ		
7	میزان ڈیڈ ویٹڈ ایلیٹریٹیوٹی فنڈ		
8	میزان ارجی فنڈ		
9	میزان اسلامک فنڈ		
10	میزان اسلامک اکم فنڈ		
11	میزان پاکستان ایکیٹیو ٹریڈ فنڈ		
12	میزان روزانہ آمدنی فنڈ		
13	میزان سوورن فنڈ		
14	میزان اسٹریٹجک ایلوکیشن فنڈ	میسرز یوسف عادل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس	بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ نے میسرز یوسف عادل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی منظوری دی
15	میزان فنانشل پلاننگ فنڈ آف فنڈز		
16	میزان فیکسڈ ٹرم فنڈ		
17	میزان گولڈ فنڈ		
18	میزان تحفظ پشن فنڈ		
19	پشن فنڈ GOKP میزان		
20	میزان ڈائنامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ		

مزید برآں، بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ نے مالی سال ختم ہونے پر میسرز یوسف عادل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی مذکورہ بالا بیس (20) فنڈز کے لیے مورخہ 30 جون 2026 تک بطور شریعہ آڈیٹرز بھی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔

سال کے دوران خدمات انجام دینے والے ڈائریکٹرز کے نام

نام	حیثیت
جناب عرفان صدیقی	چیئر مین
جناب احمد اقبال راجانی*	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر PKIC –
محترمہ عائشہ عمر*	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر PKIC –
محترمہ دانش زبیری	آزاد ڈائریکٹر
جناب فیروز ضوی	آزاد ڈائریکٹر
جناب فرقان قدوائی	آزاد ڈائریکٹر
جناب امتیاز گلدر**	چیف ایگزیکٹو آفیسر
جناب سعد الرحمن خان	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر PKIC –
محترمہ شازیہ خرم	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر MBL –
سید عامر علی	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر MBL –
جناب طارق معراج***	نان ایگزیکٹو نامزد ڈائریکٹر MBL –

وضاحت:

- * جناب احمد اقبال راجانی نے 13 جنوری 2025 کو بطور ڈائریکٹر استعفیٰ دیا، اور ان کی جگہ محترمہ عائشہ عمر کو مقرر کیا گیا۔
- ** جناب امتیاز گلدر نے 1 اگست 2024 کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کا عہدہ سنبھالا۔
- *** جناب طارق معراج نے 10 ستمبر 2024 کو بطور ڈائریکٹر استعفیٰ دیا، اور ان کی جگہ سید عمران علی شاہ کو مقرر کیا گیا۔

بورڈ کی تشکیل

کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ (CCG) کی ضروریات کے مطابق، کمپنی آزاد اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ صنفی تنوع کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ المیزان کا بورڈ CCG کی بہترین روایات کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی موجودہ تشکیل درج ذیل ہے:

نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز

1. جناب عرفان صدیقی-چیئرمین
2. محترمہ عائشہ عمر
3. جناب سعد الرحمن خان
4. محترمہ شازیہ خرم
5. سید عامر علی
6. سید عمران علی شاہ

آزاد ڈائریکٹرز

1. محترمہ دانش زبیری
2. جناب فیروز ضوی
3. جناب فرقان قدوائی

ایگزیکٹیو ڈائریکٹر

1. جناب امتیاز گلدر - چیف ایگزیکٹیو آفیسر

خواتین ڈائریکٹرز

1. محترمہ عائشہ عمر
2. محترمہ دانش زبیری
3. محترمہ شازیہ خرم

بورڈ کمیٹیاں اور ان کے ارکان

بورڈ آڈٹ کمیٹی

- جناب فیروز ضوی-چیئرمین
- محترمہ عائشہ عمر-رکن
- سید عمران علی شاہ-رکن

بورڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی

- جناب سعد الرحمن خان-چیئرمین
- جناب فرقان قدوائی-رکن
- محترمہ شازیہ خرم-رکن

بورڈ ہومن ریسورسز اینڈ ریمونیویشن کمیٹی

- جناب عرفان صدیقی - چیئر مین
- جناب فرقان قدوائی - رکن
- جناب امتیاز گلدر - رکن
- جناب سعد الرحمن خان - رکن

بورڈ آئی ٹی کمیٹی

- جناب فرقان قدوائی - چیئر مین
- جناب فیض الرحمن - سبجیکٹ ایکسپٹ
- جناب امتیاز گلدر - رکن

پائیداری کو لاحق خطرات اور مواقع

بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کی کارکردگی اور اسٹیک ہولڈرز کی قدر پر ماحولیاتی، سماجی اور گورننس (ESG) کے ساتھ ساتھ تنوع، مساوات اور شمولیت (DE&I) کے طویل مدتی اثرات کی اہمیت تسلیم کرتا ہے۔

ESG اور DE&I اقدامات کی موثر نگرانی اور نظم و نسق مضبوط بنانے کے لیے، بورڈ نے یہ ذمہ داریاں بورڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی کے سپرد کی ہیں۔ یہ کمیٹی خطرات کی نگرانی، اسٹریٹجک گورننس، اور پائیداری سے متعلق فریم ورک میں مہارت رکھتی ہے، اور اس کے ارکان متعلقہ تجربے کے حامل ہیں، جن میں ایک خاتون ڈائریکٹر بھی شامل ہیں۔ کمیٹی ESG اور DE&I حکمت عملیوں کے نفاذ کی نگرانی کرے گی، متعلقہ خطرات کا جائزہ لے گی، اور کمپنی کے طویل مدتی اہداف و اسٹیک ہولڈرز کی توقعات سے ہم آہنگی یقینی بنائے گی۔

بورڈ کا جائزہ

بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیاں متنوع تجربے کے حامل ماہرین پر مشتمل ہیں، جو تنظیمی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیاں جدید گورننس کردار سے بخوبی واقف ہیں اور کاروباری ماڈل، مجموعی اہداف، خطرات سے نمٹنے کے طریقہ کار، اور تنظیمی رویے کی حدود کے لیے اسٹریٹجک سمت متعین کرتے ہیں۔

بورڈ اور اس کی کمیٹیاں وقتاً فوقتاً اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک جامع بورڈ ایوولوشن سوالنامہ ہر سال بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی منظوری سے مرتب کیا جاتا ہے۔ سوالنامہ جمع کرانے کے بعد، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کی جائزہ رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اور ضروری اقدامات چیئر مین بورڈ اور متعلقہ کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد نافذ کیے جاتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کی معاوضہ پالیسی

کمپنی نے ڈائریکٹرز کے معاوضے کے لیے ایک باقاعدہ اور شفاف طریقہ کار وضع کر رکھا ہے، جو کمپنی کے آئین اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ معاوضے کی سطح مارکیٹ کے رائج طریقہ کار، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے ارکان کی ذمہ داریوں اور مہارت کے مطابق موزوں اور مناسب ہے۔ بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے ارکان کی معاوضہ کی سفارش بورڈ کی جانب سے کی جاتی ہے اور جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے نافذ کی جاتی ہے۔

کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے، بورڈ یا اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے کسی معاوضے کے حق دار نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ کمپنی نان ایگزیکٹو اور آزاد ڈائریکٹرز کو اجلاس میں شرکت کے علاوہ کسی قسم کی معاوضہ ادا نہیں کرتی۔

اظہارِ تشکر

ہم اس موقع پر اپنے معزز سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے المیزان انویسٹمنٹس — پاکستان کی سب سے بڑی اثاثہ جاتی انتظامی کمپنی — پر اعتماد کیا۔ ہم ریگولیٹر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور اپنے ٹرسٹی، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان، کے تعاون پر بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح، ہم میزان بینک کے شریعہ سپروائزری بورڈ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فنڈ مینجمنٹ کے شریعت سے متعلق پہلوؤں پر مسلسل رہنمائی اور معاونت فراہم کی۔

برائے و منجانب بورڈ

امتیاز گلدر

چیف ایگزیکٹو آفیسر

تاریخ: 18 اگست 2025



Al Meezan
Investment Management Ltd.

AM1
Rating by VIS & PACRA



A Subsidiary of

Meezan Bank

The Premier Islamic Bank